


COPY 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ الْبَرَكَاتُ وَالسَّلَامَاتُ

There is none worthy of worship except Allah,
Muhammad is the messenger of Allah



AHMADIYYA GAZETTE *Canada*

1365 H.S.

NOV-DEC 1986

1407 H.Q.

AMEER & MISSIONARY INCHARGE:
Moulana Naseem Mahdi

EDITOR:
Hoson Mohammad Khan

MANAGER:
A. Rasheed Latiff


The Vaughan Weekly is an independent community newspaper with approximately 11,000 circulation, published by Kingprint, 18 Doctor's Lane, Box 1036, King City, Ontario, Canada, L0G 1K0

THE VAUGHAN WEEKLY

WEDNESDAY, September 17, 1986

832-2880

VOL. 6 No. 36



A model shows the mosque to be built in Vaughan by the Ahmadiyya Movement in Islam. The leader of the movement, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, is to dedicate the foundation stone at 11:00 a.m. Saturday on the site at 10610 Jane St. The model includes the hall at right and offices at left, two components of the estimated \$2.5 million project which are to be constructed after the mosque is completed.

Text of the address delivered by

NASEEM MAHDI

Amir & Missionary in Charge

on

The Auspicious Occasion of the Foundation
Stone Laying Ceremony

OF THE FIRST AHMADIYYA MUSLIM MOSQUE
IN CANADA (MAPLE, ONTARIO)

SEPTEMBER 1986

Hazrat Ameerul Mominin Syedna wa Maulana Khalifatul Masih IV,
May Allah always succour you, and Distinguished guests,

brothers and sisters,

It is a great honour and privilege to be able to have this opportunity of welcoming you all to this historic ceremony which will go down in the books of history as a Red Letter Day in the annals of religion in this wonderful country. Most especially is the honour conferred upon us that the Supreme Head of the Ahmadiyya Community Hazrat Aqdas Ameerul Momineen has graciously condescended to grace this most historic occasion with his august presence.

Mosque is the central pivot of religious activity of a Muslim, hence the laying of the foundation stone is a giant step in the realization of this. A Muslim's well-being is centered around the Mosque. He finds satisfaction, comfort and relaxation within the walls of the mosque. He knows that there he will be surrounded by others who are also seeking nearness to their Creator and this knowledge of being in the company of others in like state of

mind enables him to try to soar to greater heights of spiritual awareness, trying all the while to better himself and help him realise his duties of trying to help better those around him in particular and humanity in general. We are indeed very happy to welcome Huzoor-i-Aqdas and all of you to share with us the joys of this historic occasion. We are most thankful to God Almighty and our hearts prostrate before His Majestic Throne singing hymns of praises and glory to Him for this unique opportunity of witnessing the laying of the first stone of a monumental building dedicated to His glory and to His worship by our beloved Supreme Head of the world wide Ahmadiyya community Hazrat Mirza Tahir Ahmad. This community of ours has been building mosques throughout the world during the past 97 years of its existence. The building of mosques epitomises the service to humanity since the mosque provides a sanctuary as a sacred place for devotion and prayers. The laying of the foundation stone for this first mosque by the Ahmadiyya community in Canada and its ultimate completion marks a new chapter in the community's service to humanity. This House of God will be open for the worship of the One True God irrespective of race or colour or country of origin. This House of God will not be used to spread the seeds of dissension and rebellion nor will it be used as a platform for religious fanaticism and bigotry, rather it will be open to the spread of love, trust, compassion, fellow feelings and understanding among God's creatures in order to enable those who enter within its walls to render selfless service to Gods creation.

It is with intense love and heartfelt feelings, on behalf of the Ahmadiyya Movement in Islam, that I extend a most cordial welcome to all of you. We feel greatly honoured to be

given this opportunity to be of service to God's creatures and we feel that words are but an inadequate medium for us to express our joy at being able to welcome all of you to this historic ceremony of the laying of the Foundation stone for our first mosque in Canada.

We pray that God Almighty may cause the object of our gathering here to be a beacon of light in the dissemination of His message and may He enable us to complete its construction in the not too distant future so that its architectural beauty and grandeur may add lustre to this ever growing town. We further pray that God Almighty may cause those who enter the walls of the mosque when completed that they may endeavour to rise to greater and yet greater heights of spiritual awareness and that they may be more tolerant and sympathetic towards all. May He cause us all as we leave here this day that our hearts overflow with love, tenderness and affection and cause us to foster a sense of brotherhood among all the peoples of this wonderful country of ours in particular and the world in general so that the purposes and spirit of a mosque be understood, realised and appreciated all for His sake, love, glory and honour.

O Lord, do Thou so ordain and cause Thy Truth to prevail and falsehood to vanish. Amen.

Once again, I welcome you all with open arms. Our last prayer is all praise belongs to Allah, Lord of all the worlds. Amen.

PRESS REPORT OF HAZUR'S VISIT TO CANADA

Hazrat Khalifa-tul-Massih IV visited Canada from September 18, to October 6th, 1986. This was an historic visit from many angles. First, it was the first visit of Hazrat Mirza Tahir Ahmad after becoming Khalifa-tul-Massih IV. Second, it was the occasion of laying the foundation stone for the first Ahmadiyya Muslim Mosque in Canada. Although, the Jamaat in Canada is now well established and has mission houses in six different cities, however, there was no proper mosque built by the Jamaat. Third, the press and media attention given to the occasion of laying the foundation stone and Hazur's visit was very unusual.

The Jamat has been working with specific programs to introduce our community to the general public for the past several years. [For this purpose, regular T.V. programs are aired from several T.V. stations in a number of cities on a regular basis.] During the last year, radio programs were also recorded and aired through 17 radio stations across the country. As for the print media, some major newspapers in Canada wrote articles about our Jamat and the present situation of Ahmadis in Pakistan. In particular, The Globe and Mail, the most influential and a highly regarded daily newspaper in the country, wrote a well worded editorial outlining the plight of Ahmadis. Similarly, the same newspaper did a front page story on the Mullahs who came to Canada to spread hatred against Ahmadis in the name of "Khatm-e-Nabooat". The Toronto Star, the largest circulating daily in the country did several stories on Ahmadis during the year. In the past year, National Information and Action Committee, an ad hoc committee to take quick actions on matters of immediate concern, has arranged several meetings with many prominent politicians, people of influence and officials of the government. More than 2000 letters were written in the past year to update the Members of Parliament. We are very thankful to Allah that He accepted our efforts and produced results which were far more in excess of our efforts.

Hazur's visit to Canada was first reported in the press on August 29, 1986, in the Globe and Mail, a newspaper regarded the best in Canada and is also considered one of the World's best. Its circulation is 322,000 and is the only national paper in the Country. When the mullahs came to Canada, a reporter from this newspaper got interested in the purpose of their visit. He attended the so-called "khatam-e-Nabuwat Conference" in Toronto and reported on the first page of this paper what he saw and felt at the conference.

Because the mullahs spoke in filthy language against our community spreading hate and inciting people to take actions against us, the reporter was offended by this behaviour and raised questions in his press report how and why visas were issued to such people who are known to spread hate against other peaceful communities. This report of the "Conference" in the Globe and Mail was read with great interest in all

6
the circles in Canada. The government of Canada launched an investigation of the circumstances under which visas to these mullas were granted. Other newspapers took an active interest in the issue and reported in their dailies in the following days. The reporter had also mentioned that the Head of the Ahmadiyya community was due to visit Canada in September 1986. As Hazur's visit approached nearer, other local newspapers also started writing articles about our Jamaat, the mosque project and Hazur's visit.

We have compiled some statistics of the press and media coverage of Hazur's visit to Canada. As for as the newspapers are concerned well over 3½ million readers of different papers read about our Jamaat and Hazur's visit. Although, there were some inaccuracies in some press reports and corrections were published in the following days, the fact still remains that over 3 million people came to know of our community.

In the Radio programs in which Hazur's interviews were aired the listeners ~~are~~ ^{were} estimated well over 200,000.

As for as T.V. is concerned, over 600,000 people watched Hazur's interviews during his stay in Canada.

The details of all the newspapers coverage is attached with this report. Overall, Hazur's visit to Canada was a resounding success in terms of press and media coverage. We bow our heads in gratitude to Allah for these results for it was not possible with our efforts alone.

A list of the newspapers in which reports of Hazur's visit and about our Jamaat appeared is attached. With the exception of one or two, all of these newspapers are very important and have received awards of merit on several occasions in the past.

Canadian Broadcasting Corporation (CBC) is the largest network of Radio and TV stations in the country. When Hazur visited in September, CBC Radio network interviewed him live on one of the most popular radio talk shows "Metro Morning" at 8:30 AM on Friday, September 19, 1986. A separate sheet for Radio and TV coverage is attached.

RADIO AND T.V. PRESS REPORT

Hazur's Visit to Canada, Sept. 86.

- 1) Canadian Broadcasting Corporation (CBC) is the largest network of Radio and TV stations in Canada and is owned by the government of Canada. "Metro Morning" is one of the popular Radio Talk Shows in the Toronto area. It is aired in the "prime time" in the morning when hundreds of thousands of people are going to work and listening to the radio in their cars. The show starts at 8:30 am and ends at 9am. The producer of this program approached us with a request that he would like to interview Hazur for his live show. Arrangements were made for him to talk to Hazur on the phone at 8:30 am on September 19, 86, and the conversation was aired live at the same time. This program has a rating of listeners over 103,800.

- 2) City TV Station is an independent network covering the metro Toronto area. It is one of the popular TV network of the city. Reporters and camera men were present from this station at the time of the most important ceremony of laying the foundation stone for the first Ahmadiyya Muslim Mosque on September 20, 1986. This network recorded the whole ceremony from 11am to 2pm. When it was about to end, the reporter from this network requested to interview Hazur briefly so that he could use the clipping for his news reporting. At 6PM which is the prime time for news the news of our Mosque with a short interview of Hazur was aired. The rating of audiences for this network is 300,000 for 6pm news. It was repeated at 10pm news which has an audience of 120,000.
- 3) CBC TV interviewed Hazur at the brief stopover in Saskatoon, and aired the news in the city network.
- 4) CJCA Radio station in Edmonton interviewed Hazur for one hour between 9am -10am. This was again a live program and the host was MR Ron Collister who is one of the popular hosts of live radio shows in the city of Edmonton. This program was regularly advertised several times prior to the actual interview. This was aired on September 29, 1986, and has a rating of approximately up to 80,000 listeners.
- 5) Independent TV (ITV) network is also one of the major network in the city of Edmonton. Nightline is a live TV talk show hosted by Neil Fitzpatrick and is aired between 11pm-11:59pm every night. Mr Fitzpatrick interviewed Hazur on September 29, 1986. The program was very much liked by the viewers. It has a rating of approx. 70,000 viewers every night.
- 6) ITV network also reported about Hazur's visit in its 12:00 noon, 6pm and 10pm newscasts.
- 7) In Vancouver, Television station CKVU Channel 13, live interview was broadcast at 2PM on a very popular show "People Will Talk" hosted by Mr. Pierre Laurier who is a well known personality in Vancouver.
- 8) CKUA Radio station in Edmonton reported about Hazur's visit to Canada on October 10, 1986, after Hazur had gone from here.
- 9) CBC Radio network has a program "Open House" which is aired all over the country. On October 26, 1986, our Jamaat in the city of Brantford had scheduled a conference on Religious Founders Day. CBC's Open House producer contacted our press department and interviewed the press secretary to report on the event. During the program, the producer mentioned that Hazur had recently visited Canada and quoted from Hazur's speech in Calgary.

List of the Newspapers in which reports of Hazur's Visit to Canada and about our Jamaat were printed.

<u>Name</u>	<u>Status</u>	<u>Circulation</u>
1) The Globe and Mail Toronto, Ontario	Daily/ National	322,000
2) The Toronto Star Toronto, Ontario	Daily/ City	500,000
3) Vaughan Weekly King City, Ontario	Weekly/ Local Community	10,000
4) The York Times Thornhill, Ontario	Bi-Weekly/ Local Community	20,000
5) The Vaughan Liberal Richmond Hill, Ontario	Twice in Week/ Local Community	50,000
6) The Gazette Montreal, Quebec	Daily/ City	272,000
7) The Whig Standard Kingston, Ontario	Daily/ City	45,000
8) Cites Nouvelles (French) Montreal, Quebec	Weekly/ City Suburb	23,500
9) Pragati Montreal, Quebec	Bi -Monthly/ Local Community	3,000
10) Star-Phoenix Saskatoon, Sask.	Daily/ City	75,000
11) Edmonton Journal Edmonton, Alberta	Daily/ City	350,000
12) Calgary Herald Calgary, Alberta	Daily/ City	360,000
13) Overseas Times Vancouver, B.C.	Bi-Weekly Local Community	70,000

Most of these newspapers are very important, and have reported about our Jamaat several times.

CANADA'S NATIONAL NEWSPAPER

The Globe and Mail

143rd YEAR, NO. 42,661 ■ METRO ■ FRIDAY, AUGUST 29, 1986

Trail of anger follows Moslem priests into Canada

BY ZUHAIR KASHMERI
The Globe and Mail

Six Pakistani Moslem priests are touring Canadian mosques and stirring up anger against the 5,000 local members of an Islamic sect, making police fearful that their inflammatory speeches could lead to violence against sect members in this country.

The Pakistani priests belong to a group called the Majlis-e-Tahaffuz-e-Khatm-e-Naboowat (the group to protect the finality of Prophet Mohammed). A Canadian diplomat in Pakistan says the group was behind the provocation that led to a mob stoning the sect's mosque in that country earlier this year.

The group holds conferences all over the world to show mainstream Moslems that the teachings of the sect, known as Ahmadiyya Movement in Islam, are contrary to Islamic belief that Mohammed was the final Prophet.

Khatm-e-Naboowat has a branch in Toronto that is being investigated by Metro Toronto Police and the Ontario Provincial Police, said Constable Mazhar Ansari of the Metro Police ethnic relations unit.

The two police forces are considering whether the group and the organizer of a Khatm-e-Naboowat conference last weekend in Toronto should be charged under a section of the Criminal Code that deals with spreading hatred against an identifiable group, Constable Ansari said.

The police are concerned that domestic terrorism could result against the sect because of the anger that is generated at such conferences, another Metro policeman said.

Violence against the Ahmadiyya Movement because of its beliefs is nothing new to the Ahmadis, as the sect's followers are called. Prominent Ahmadis in Detroit and Trinidad have been killed. Their missions in Baltimore, Detroit and Norway have also been bombed, police in the United States said.

The Pakistani group's preaching worries Nasir Ahmed, the Ahmadiyya Movement's information officer for Canada. "The Government of Canada should be more selective in issuing visas to such groups," he said.

The Khatm-e-Naboowat group is known to the Canadian Embassy in Islamabad.

Vice-consul Bruce Mabley said in a telephone interview that the group was responsible for provoking mob violence in Quetta, where a large crowd stoned the sect's mosque because it resembled a mainstream Moslem mosque.

A spokesman for the Immigration Department in Ottawa said the department was unaware of the Khatm-e-Naboowat group. He said the department would check into the circumstances surrounding the issuing of visas to the priests.

Hafiz Saeed Ahmad Shah, the Khatm-e-Naboowat's international general secretary

Priests' visas to be checked by Immigration Department

and the organizer of the Toronto conference, said in an interview that it is the Ahmadis who should be denied entry to Canada because they preach a false Islam and offend Moslems.

At last Sunday's conference, held in Toronto's Jami Mosque, some of the priests ridiculed the "crooked" teachings of the Ahmadis and exhorted Toronto Moslems to rise and defend the finality of Mohammed.

The single biggest difference between the Ahmadis and mainstream Moslems is that the former believe that their founder, Mirza Ghulam Ahmad (who died in 1908), was the promised messiah.

Mainstream Moslems consider this to mean that the Ahmadis are claiming a prophet after Mohammed — the most insidious blasphemy in Islam. Hence, the name of the group is linked to preserving the finality of the prophet.

Other than this, Ahmadis, like other Moslems, believe in Allah and the Prophet Mohammed, observe all the Islamic sanctions and say the same prayers.

From 300 to 400 Pakistani Moslems attended the Toronto conference, cheering the priests and cursing the Ahmadis for anti-Islamic activities.

Among the guests was Afzal Akbar Khan, the Pakistani consul general in Toronto. Mr. Khan said in an interview that he attended the conference briefly only out of courtesy because he had been invited.

The priests, who came to Canada from London, England, left for Edmonton and Vancouver earlier this week to "pursue them (Ahmadis) until they are pushed into the fires of hell," as one priest, Maulana Zia ul-Haq Qasami, told the Sunday conference.

At the intervention of Constable Ansari of the Metro Police, mosque authorities in Toronto refused to allow the distribution of an article that refers to the Ahmadiyya Movement as "a foul-smelling ulcer" and the Ahmadis as an "organized band of forgerers and apostates."

Constable Ansari said the article, along with other literature, was being examined by Project Hate of the OPP.

Mr. Shah said the Ahmadis have a television show in which they claim to preach Islam, offending the Moslem majority.

"They offend our sentiments," he said. "The Pakistani Constitution has declared them non-Moslems. . . . If they say they are Moslems, they are deceiving the people."

Such sentiments worry Metro Police because the Ahmadis have their Canadian headquarters in Toronto. A rich community, most of whose members are either professionals or in business, it has just bought 62 hectares of land north of Canada's Wonderland, to build a \$2.5-million mission and mosque with the traditional minaret.

Next month, the current head of the sect, Mirza Tahir Ahmed, will visit Toronto from England, where he lives in self-imposed exile, to lay the foundation stone for the centre. In October, the Ahmadis will hold their annual conference in Toronto.

Police are concerned because Khatm-e-Nabooat conferences often end in threats and violent incidents. Last year, after a similar conference in London, England, the sect's chief missionary in Trinidad was shot dead and its missions in Edmonton and in several European cities received bomb threats.

Law in Pakistan says Ahmadis are not Moslems

The Ahmadis are also disliked by other mainstream Moslem groups. The U.S. Federal Bureau of Investigation believes that a shadowy mainstream Moslem group called FUQRA bombed the sect's Baltimore headquarters last year and three times in 1983. There are about 10,000 Ahmadis in the United States.

"The goal of FUQRA is to eliminate and/or intimidate members of (the sect) through assassination, fire-bombing and arson," an FBI report says.

In April, 1983, two Moslems belonging to another mainstream Moslem group, the Detroit-based Dar-ul-Islam group, which intelligence sources say is financed by Saudi Arabia and North Yemen, shot and killed a 36-year-old medical doctor, Muzaffar Ahmed of the Wayne County Hospital.

Dr. Ahmed, general secretary of the local Ahmadiyya mission, was shot four times at his doorstep by a man who had earlier dined with him to discuss the sect.

Subsequently, the suspected killer, William Cain, 27, of Akron, Ohio, accompanied by Calvin Jones, 30, of Detroit, fire-bombed the Ahmadiyya mission in Clinton Township just outside Detroit, destroying it. They were trapped in the building and killed, Clinton Township police said.

The incidents occurred just before the sect's annual North American conference at Oakland University in Clinton. The university cancelled the booking, fearing that its property could be bombed, and the conference could not go ahead.

About the same time, Ahmadis attending a poetry session at Seneca College in Toronto found flyers on their windshields. The flyers declared them apostates and hence liable to the death sentence under Pakistan's Islamic law, Mr. Ahmed of the Toronto mission and other Ahmadis said.

In Pakistan, more than 20 sect members have died in mob violence in the past two years under circumstances similar to the provocation recalled by the Canadian vice-con-

CONTINUED ON PAGE 26

The Globe and Mail

R. HOWARD WEBSTER, Honorary Chairman
 A. ROY MEGARRY, Publisher
 NORMAN WEBSTER, Editor-in-chief
 GEOFFREY STEVENS, Managing Editor
 IAN CARMAN, Executive Editor

CANADA'S NATIONAL NEWSPAPER
 Proprietor — The Globe and Mail
 Division of Canadian Newspapers Company Limited
 444 Front St. W., Toronto M5V 2S9
 Telephone 416 585-5000
 The Globe founded 1844 The Mail founded 1872
 MONDAY, SEPTEMBER 29, 1986

The subject who is truly loyal to the Chief Magistrate will
 neither advise nor submit to arbitrary measures. JUNIUS

A persecuted faith

When six Pakistani Moslem priests last month toured Canadian mosques and incited hatred of an Islamic sect known as the Ahmadis, they spewed into Canada a fundamentalist poison which, in their homeland, bears the imprimatur not only of fanatical mullahs but also of President Mohammed Zia ul-Haq.

Islamic theocracies such as Pakistan, Iran and Saudi Arabia are not easy places for Christians or Jews to live, but they are particularly hazardous for minorities whose faith is considered an apostasy of mainstream Islam. Ask the persecuted Bahais of Ayatollah Khomeini's Iran. Ask the persecuted Ahmadis of General Zia's Pakistan.

The Ahmadis account for only four million of Pakistan's 90 million people, but they have produced some of its most accomplished citizens, including its first foreign minister and only Nobel Prize winner. Both of these men, however, went into exile — with numerous other Ahmadis — in the wake of anti-Ahmadi riots in 1974.

The Ahmadis offend fervent disciples of the dominant Sunni branch of Islam because they believe that the founder of their sect was the messiah. Mainstream Moslems consider this a denial of the Prophet Mo-

ammed as the final prophet. They resent the Ahmadis' assertions that their faith will peacefully conquer the world. They especially resent Ahmadi efforts to accelerate the conquest with missionary activity.

In most respects, the Ahmadis follow the basics of mainstream Islam. They pray five times daily, worship in mosques and recite the Koran. But following the 1974 riots, former prime minister Zulfikar Ali Bhutto heeded the demands of opposition parties and amended the constitution to declare the Ahmadis a non-Moslem minority. Their passports were so stamped and hence they were denied entry to Saudi Arabia as *hajis* to Mecca. (The pilgrimage is one of the five pillars of Islam.)

This state intrusion into their faith was mild compared to the actions of Gen. Zia a decade later. As part of his Islamization program, he passed Ordinance XX. This edict prescribes prison sentences of three years for Ahmadis who represent themselves as Moslems by saying Moslem prayers, using Moslem greetings or calling their houses of worship mosques.

Although the ordinance runs counter to the Pakistani constitution's guarantee of freedom of worship, it has been the basis for numerous arrests. Many publi-

cations of the Ahmadis have been banned or confiscated. Unless they register as non-Moslems, Ahmadis cannot win admission to universities or vote in elections. The Ahmadis say the government encourages discrimination against them in employment.

The state has also turned a blind eye when fundamentalist mobs have engaged in anti-Ahmadi violence. Ahmadi mosques have been desecrated or demolished, many Ahmadis have been assaulted and some have been killed. Pakistan's mistreatment of the sect has been condemned by such bodies as the UN Human Rights Commission, the New York-based Lawyers Committee for Human Rights and London-based Amnesty International.

International censure has not restrained President Zia, who vowed last year to "persevere in our effort to ensure that the cancer of Ahmadiyya is eliminated." Gen. Zia, whose hometown is near the birthplace of the Ahmadi faith, was once mooted in a whispering campaign to be an Ahmadi himself (which, in the unlikely event it were true, would disqualify him as head of the Islamic Republic). Is the demonization of the Ahmadis therefore intended, at least in part, to allay suspicions of Zia the Zealous?

THE TORONTO STAR

Published at One Yonge Street, Toronto M5E 1E6 by Toronto Star Newspapers Ltd.
 a wholly owned subsidiary of Torstar Corp.
 Established 1892 — Joseph E. Atkinson, Publisher, 1899-1948
 August paid circulation Monday-Friday 514,054
 Saturday 791,302 Sunday 517,038
 Member of the Audit Bureau of Circulations
 Member of the Ontario Press Council

THE SUNDAY STAR, SEPTEMBER 21, 1986/A11



PAUL REGAN/TORONTO STAR

Moslem leader: Hazrat Mirza Tahir Ahmad (third from left), leader of the world's 10 million Ahmadiyya Moslems, leads his entourage near Maple to place the cornerstone for the group's first Canadian mosque. A crowd of 2,000 from across North America attended yesterday's ceremony.

New \$2.5 million mosque to rise in Maple cornfield

By Joseph Hall Toronto Star

MAPLE — The leader of the world's 10 million Ahmadiyya Moslems has placed the cornerstone in a cornfield just south of here for the group's first Canadian mosque.

Speaking to about 2,000 follow-

ers from across North America yesterday, Hazrat Mirza Tahir Ahmad said the \$2.5 million structure would be a "house of peace for all mankind."

Veiled women

"In these troubled times, houses of worship around the world have

become centres for the dissemination of the seeds of hate and violence," said Ahmad, amid heavy security from both police and private guards.

"But in this mosque, there will be no talk of hatred and bloodshed. We will not lead people into the dark abysmal areas. You can set

your mind to ease on that," he told the crowd, which included many local residents and dignitaries.

Before the ceremony, Ahmad spoke to about 1,000 Ahmadiyya men in a huge tent erected beside the construction site. Women — most in veils — and children watched him on a television screen in a separate tent 30 metres away.

The Pakistani native, who is living in exile in London, England, because of "religious persecution" in his homeland, said his was a "peace-loving community being tortured in the name of religion.

"We are the objects of hatred by even the followers of Islam itself, so we are used to suffering.

"But those hearts made to suffer are purified," he said.

Claiming about 2,500 followers nationwide, the Ahmadiyyas reject the mainline Islamic doctrine declaring that Mohammed was the last prophet of Allah.

They look instead to Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the founder of the sect, as their spiritual leader.

Spokesman Naseer Ahmad — no relation to the leader — says his group's rejection of "Holy War" as a means of spreading Islam also distinguishes it from the rest of the

Moslem world.

"We're a peaceful people, dedicated to love for all and hatred for none," he said.

Complete with dome and minaret (prayer tower), the mosque will become the Canadian Mecca for the sect which originated in the Punjab state of India near the turn of the century.

'Eastern flair'

It will include a prayer chamber for 900 people and an office complex, and will eventually house a sports and community centre for about 1,000 Ahmadiyyas in the Metro area, Naseer Ahmad said.

The minaret, a slender tower with balconies from which a muezzin calls the faithful to prayer, would be equipped with a loudspeaker if town bylaws permit it.

The haunting Azan — the song that calls Moslems around the world to prayer — should echo over the quiet village north of Metro by next December, Naseer Ahmad said.

A18 Friday, September 26, 1986

THE TORONTO STAR

Published at One Yonge Street, Toronto M5E 1E6 by Toronto Star Newspapers Ltd.

a wholly owned subsidiary of Torstar Corp.

Established 1892 — Joseph E. Atkinson, Publisher, 1899-1948

August paid circulation Monday-Friday 514,054

Saturday 791,302 Sunday 517,038

Member of the Audit Bureau of Circulations

Member of the Ontario Press Council

Letters to the Editor:

New mosque in Maple no Mecca for Moslems

Re, the article, New \$2.5 million mosque to rise in Maple cornfield (Sept. 21).

It is mentioned that "the mosque will become the Canadian Mecca for the sect." The use of this terminology is very much misleading for the Moslem community. Mecca is a holy city for Moslems, situated in Saudi Arabia. We do not intend to create any other Mecca in Canada. This will be a mosque, a house of

Allah, where Moslems will worship their lord.

In the last paragraph it is said that "the haunting Azan should echo over the quiet village" — seemingly giving the impression that the mosque will disrupt the peace and quietness of the area. I would like to point out that we are building a house of peace, love and a place of worship. To give the impression that such a building will disrupt the peace of the area is a distortion of the facts.

NASEER AHMAD

Public Relations

The Ahmadiyya Movement
in Islam (Ont. Inc.)

Maple

THE TORONTO STAR, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 1986/A3

Correction

Ahmadiyyas' beliefs incorrectly stated

A story in The Star on Sept. 21 erred in setting out some tenets of the Ahmadiyya Muslim Community in its account of a cornerstone laying for a \$2.5 million mosque near Maple.

The Ahmadiyyas accept Mohammed as the last prophet of Allah, says Naseer Ahmad, a spokesman for the local movement. And followers regard the head of their organization, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, as subordinate to Mohammed.


The Star regrets the error.

THE TORONTO STAR - NORTH EDITION

NEIGHBORS

Tuesday, September 23, 1986

1 Yonge Street,
Toronto, Ontario,
Canada, M5E 1E6
Phone: (416)-367-2000



Maple mosque: Above is a model of the \$2.5 million Ahmadiyya mosque being built in the Village of Maple, north of Metro. On Saturday, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, head of the 10-million-

strong Islam sect, blessed the cornerstone of the group's first Canadian mosque, which will serve about 1,000 Metro-area adherents. It is expected to be completed by December, 1987.

Mosque to be built in Maple

By Joseph Hall Toronto Star

The haunting *Azan* — the song that calls Moslems around the world to prayer — may soon echo over the quiet village of Maple north of Metro.

On Saturday, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, head of the 10-million-strong Ahmadiyya sect of Islam, blessed the cornerstone of the group's first Canadian mosque, which will serve about 1,000 Metro-area adherents.

Complete with dome and minaret — prayer tower — the mosque will become the Canadian centre for the sect, which originated in the Punjab state of India around the turn of the century.

The \$2.5 million project will in-

clude a prayer chamber for 900 and an office complex. It will eventually house a sports and community centre, group spokesman Naseer Ahmad says.

"It will be done in the modern style but we will try to keep an Eastern flair with the dome and minaret," he says.

Ahmad says the minaret, a slender tower with balconies from which a singer calls the faithful to prayer, would be equipped with a loudspeaker and would be used if town bylaws permitted.

Ahmad, a Mississauga businessman, says Maple was chosen because it lies roughly at the centre of Metro's northern border and could provide easy access via Highway 400.

"Our community is spread throughout the (Metro) area and Maple is about as close to the centre as we could get," he says.

The mosque, expected to be completed by December, 1987, will be

financed by the Canadian Ahmadiyya community, who donate one-sixteenth of their income to the church, Ahmad says.

Claiming about 2,500 followers nation-wide, the Ahmadiyyas reject the mainline Islamic doctrine declaring that Mohammed was the last profit of Allah.

They look instead to Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the founder of the sect, as their spiritual leader.

The Punjabi seer, who died in 1908, claimed to be the promised messiah who would unite all the world's religions under the teachings of the Islamic Koran, Ahmad says.

The Vaughan Weekly is an independent community newspaper with approximately 11,000 circulation, published by Kingprint, 18 Doctor's Lane, Box 1036, King City, Ontario, Canada, L0G 1K0

THE VAUGHAN WEEKLY

WEDNESDAY, September 24, 1986

832-2880

VOL. 6 No. 37

Security net spread over dedication of mosque

The foundation stone for the mosque to be built on Jane St. north of Maple by the Ahmadiyya Movement in Islam was dedicated Saturday morning by the movement's leader who said area residents should have no fears or misgivings about the arrival of the sect.

Hazrat Mirza Tahir Ahmad, the spiritual and administrative leader of the some 10 million world-wide Ahmadiyya followers, said the movement is a peace loving community. The mosque, the first to be built by the community in Canada, will be a house of worship open to all, he said, adding that it is to provide social guidance, not social hatred.

The leader, based in London, Eng., saying many religious groups try to sow seeds of

discontent and advocate hatred of their fellow beings, said the Ahmadiyya represents a return to the origin of religions in that "you must love the creations of God before you can love the Creator."

He said his movement has been persecuted "in the name of religion" and made the object of hatred "even by Moslems."


The Ahmadiyya calls for peace and brotherhood were in marked contrast to the security net thrown over the ceremony by movement members and police. Many of those attending were frisked as they entered the marquee for the ceremony which preceded the cementing of the foundation stone.

The Ahmadiyya, considered a heretic sect

by mainstream Moslems, has been persecuted in Pakistan and it has been the target of terrorist attacks elsewhere.

Among the guests taking part in the ceremony were Mayor Hazel McCallian, of Mississauga, and East Gwillimbury Mayor Bob Featherstonhaugh, the sole representative of York Region. There was no representative of Vaughan present. Vaughan Mayor Lorna Jackson met with the movement leader Friday, a movement official noted.

The movement, which opposes violence, believes that ultimately, through reason and logic, Ahmadiyya will become the universal religion bringing peace and harmony to the world.



Hazrat Mirza Tahir Ahmad prepares to lay foundation stone.

Vaughan Liberal

A Metroland Community Newspaper serving Richmond Hill, Thornhill & Vaughan

Address all letters to:
The Editor, The Liberal, Box 390, Rich-
mond Hill, L4C 4Y6. Deadline is noon
Monday. CANADA

109th year

A Metroland Community Newspaper

Wednesday, September 24, 1986

44 pages

50 cents

Home delivery 40 cents

Muslim leader lays cornerstone for mosque

By SCOTT LAWSON

MAPLE — With more than 2,000 followers of the Ahmadiyya Muslim movement on hand from across North America Saturday, spiritual leader Hazrat Mirza Tahir Ahmed laid the cornerstone for a \$2.5-million mosque to be built as the Canadian headquarters for the Islamic-based religion.

Housed on 25 acres of land on Jane Street just north of Maple, the planned structure will be the nation's central worshipping place for the Muslim sect, which began in the late 1800s and today claims a following of 10 million people worldwide.

The "house of peace for all mankind" is expected to include a prayer chamber for 900 worshippers in addition to a head office for the national movement, estimated to be about 2,000 followers.

While zoning for such a religious institution is allowable under the official plan of Vaughan, no formal applications for a building permit or site plan approval have been submitted for the mosque. Officials from neighboring municipalities were on hand at the ceremony Saturday, however, no Vaughan town officials were present.

EVANGELICAL

"We feel we have something to offer the people of Canada which is appealing," said Naseer Ahmad, spokesman for the national movement. "It is an evangelical type of movement and we actively go out to preach the words of our religion."

Complete with a dome and a traditional Islamic prayer tower (minaret), the mosque will be the place Muslims from across the nation will gather together in prayer (azan) five times daily. Mr. Ahmad



Hazrat Mirza Tahir Ahmad (centre), spiritual leader of the Ahmadiyya Islamic movement, leads the procession to the cornerstone laying ceremony for the Muslim mosque to be built in Maple.

(Liberal photo by Mike Barrett)

is hopeful that the tower can be equipped with a public address system to replace the traditional means of a sect follower calling out the azan.


The movement began in the Punjab state of India in 1889 and has since spread to more than 100 countries worldwide. Unlike the main Islamic doctrine, which declares Mohammad as the last prophet of Allah, the Ahmadiyya movement worships the founder

and spiritual prophet of the sect, Hazrat Mirza Tahir Ahmad.

The religious movement believes devoutly that the Messiah, or the promised one, has already arrived and has prophesized that all of mankind will be unified into one universal religion.

PEACEFUL BATTLES

"We believe there is a peaceful and reasonable way to work out all conflicts," explained Mr. Ahmad, a businessman who has lived in



Pictured above is a model of the Muslim mosque planned in Maple.

Canada for 10 years. "Unlike many Islamic faiths, we believe in non-violent and peaceful battles to be fought with reason and strength of argument."

Rejecting the belief of the vast majority of Muslims, who number an estimated 800 million throughout the world, Mr. Ahmad said the sect renounces "Holy War" as a way to spread the Islamic faith.

The leader is currently living in exile in London, England, fleeing persecution from opposing religions as well as the predominant Islamic faiths.

The York Times, September 23, 1986 - Page 9

Moslem Movement Choses Vaughan For New Headquarters

By Itala Silvestri

The Ahmadiyya movement of Islam, an established religion, with followers in over 100 countries all over the world, has proposed to build their mosque and community Center in Vaughan.

The proposed location of their new headquarters is about 1.7 km west of Canada's Wonderland, on 25 acres of land the movement has purchased. According to Naseer Ahmad, the public relations director for the community, all they need is the green light from the town of Vaughan and they will begin building the new center.

The leader of the Ahmadiyya

is Harzat Mirza Tahir Ahmad, the decendent of the founder of the movement, Harzat Mirza Ghulam Ahmad, was present for a ceremony to dedicate the foundation stone for the mosque.


The Ahmadiyya movement was founded 1889 in Qadian, which is a small village in the Punjab India. Mr. Ahmad said that there are over 5000 members of the Ahmadiyya in Canada. The group chose 10610 Jane Street in Maple as their location because it is central and is easily accessible to members who are spread out.

The Ahmadiyya movement is a religion that believes that

their messiah is already here spreading the word that Islam is to provide the final and complete code of life for all mankind. The movement does not believe in the idea of holy war and promotes non violence and reason.

The initial cost of the Ahmadiyya community center and mosque to be built in Vaughan will be approximately one million dollars.

Members of the Ahmadiyya community are expected to give one sixteenth of their income to the movement. Such contributions help to make the Vaughan center a reality.



This is a model for the proposed Ahmadiyya community center and mosque, in Vaughan. The mosque will seat 900 people.

The York Times

Division of Service Communications Ltd.

President
Ugo Fusco

Production Manager
Doris DaSilva

Editor
Itala Silvestri

Staff Writers
Wesley J. Rochester
Jack Honig

Sports Editor
Ross Fattori

Photographer
John Barone

Advertising Director
Tom Farella

Graphics
Mirna D'Antonio

Typesetting
Marianne Martins

Circulation
Ross Fattori

Editorial Correspondents
Harvey Naimon, B.A., LL.B.
Yaacov Ben-Israel, B.Sc., D.C.
Michael St. Gardner
Gino Schincariol
Sargent P. Bullivent

Community Advisory
Committee
Ugo Fusco
Itala Silvestri
Bernie Green
John Jacob
Rose-Marie Bos
Arthur Rubino
Jana Dzeletovic
Domenic Romano
Rabbi Solomon Domb
Art Nuosci

The opinions expressed in the columns contributed do not necessarily reflect the opinions of the York Times.

The York Times is published and distributed every 14 days with a circulation of 20,000 copies. The York Times is received by every home and business in Vaughan Township by mail distribution. Subscription rates are \$20.00 per year.

The York Times
P.O. Box 684, Thornhill
Ontario, L3T 4A5
(416) 738-4174

Refugees from orthodox Islam follow separate ways in Montreal

To Moslems, Mohammed was the last and greatest of the prophets, and for many Moslems any claim of a later, greater prophet is particularly offensive.

Members of two faith communities, who have been accused — they say wrongly — of making such a claim have been fleeing Moslem persecution in different countries recently.

Both religious movements were founded in the 19th century and stress the unity of man's great religions. A few refugees of both groups have made their way to Montreal.

The around 2,000 followers in the Montreal area of the Baha'i faith, which has the unity of the human family as its principal belief, and goal, mourn more than 200 Baha'is put to death and thousands more persecuted in Iran.

Flight from the Islamic regime of the Ayatollah Ruhollah Khomeini has recently added a few dozen Persian Baha'is to Montreal's long-established, ethnically diverse Baha'i population.

A man now known to Baha'is as Baha'u'llah founded Baha'i in Persia, as Iran was then called, in 1844.

Perhaps 200 people, mainly of Pakistani and Indian origin, in the Montreal area, followers of the Ahmadiyya Movement in Islam, expect their numbers to increase sharply as Ahmadis flee persecution under the Islamic Pakistani government of President Mohammed Zia ul-Haq.

Montreal Ahmadi leaders say tensions in Pakistan are being reflected in some deterioration of the harmony that once existed between Ahmadis and other Moslems around Montreal.

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad founded the Ahmadiyya Movement in 1889 in Qadian, a village in what is now the Indian Punjab.

Baha'is and, especially, Ahmadis say they do not reject the claim that Mohammed was the final "seal of the prophets," as their Moslem critics accuse them of doing.

Ahmadis say Ghulam Ahmad was a messiah but not a prophet and brought no new revelation or law.

John-Paul Moss, a member of the nine-member assembly — executive — of the Montreal Baha'is, said Baha'is distinguish between "prophets," of whom Mohammed was the last and "manifestations," of whom

Religion

HARVEY
SHEPHERD



Baha'u'llah was one. (However, some Baha'i documents apply the word "prophet" to Baha'u'llah.)

Baha'is are a separate religion. Ahmadis, contrary to what their Moslem opponents say, insist they are Moslems, with the same practices as other Moslems.

Both Ghulam Ahmad and Baha'u'llah are seen by their respective followers as the reformer whose advent was awaited under different names by adherents of various religions: the second coming of Jesus for Christians, another incarnation of Krishna for Hindus, and so on.

Each group believes in its mission of unifying the world's religions — in the Ahmadis' case, within Islam.

The Ahmadis' current problems began largely with anti-Ahmadi riots in 1974 in Pakistan, where Ahmadis make up about four million of the 90 million population.

A 1984 decree by President Mohammed Zia ul-Haq prescribed three-year prison sentences for Ahmadis who represent themselves as Moslems, use Moslem practices in worship or propagate their faith.


Barakat Janjua, president of the Montreal Ahmadi community, said that at least 13 Ahmadis have been killed in Pakistan. Some Ahmadi mosques have been seized, there has been mob violence and thousands of Ahmadis have faced discrimination in careers, including the military, and schooling.

He said about 30 Ahmadi refugees from Pakistan have reached Montreal in the past couple of months.

He said relations between Ahmadis and other Moslem communities in the west have deteriorated in recent years.

Around Montreal, Janjua said, relations have grown cooler but extremism has found little favor among non-Ahmadi Moslems.

"People who used to be friendly with us are still friendly," he said, "but now they want to relate to us as



HAZRAT TAHIR AHMAD
Ahmadi leader

average Canadians rather than fellow Moslems."

The leader of the world's estimated 10 million Ahmadis visited Montreal in September while on a Canadian tour. Hazrat Mirza Tahir Ahmad, who moved his base to London from Rabwah, Pakistan, a few years ago, placed a cornerstone at Maple, near Toronto, for the first Canadian Ahmadi mosque.

Montreal Ahmadi worship in a mission house in a former bank branch on Gouin Blvd. in the West Island community of Ste. Genevieve. They invite the public to interfaith symposiums there or elsewhere about once a month.

Like the Ahmadi mission, the centre recently opened to the public by the Baha'i Community of Montreal at 177 Pine Ave. E. in downtown Montreal includes a modest library and is intended in part to be a place of interfaith dialogue.

Although the history of Baha'i in Montreal goes back 84 years, the centre, formerly used as a church, is only the second building owned by Baha'i in the Montreal area. City of Montreal Baha'is previously rented quarters. Baha'i groups in 14 suburbs meet in members' homes.

May and William Sutherland Maxwell established a Baha'i group in Montreal in 1902. W.S. Maxwell, architect of such buildings as the

The Whig-Standard

KINGSTON • ONTARIO

FRIDAY, SEPTEMBER 26, 1986 • 35 CENTS

KINGSTON AHMADIS HELP LAY CORNERSTONE FOR MOSQUE IN MAPLE

By ELLIE BARTON

The two Ahmadi Muslim families of Kingston witnessed an historic ceremony on Saturday, as their world leader placed the cornerstone of a \$2.5-million mosque in a cornfield near Canada's Wonderland.

"After the ceremony I and my children put some cement on the cornerstone," said Kingston resident Zakaria Virk, who contributed \$2,000 toward the mosque. "I prayed that the centre would be a source of peace, love and harmony for the people of Canada."

Virk's prayer echoed the words of leader Hazrat Mirza Tahir Ahmad to the crowd of about 1,500 Ahmadis from Canada and 500 from the United States.

"In this mosque, there will be no talk of hatred or bloodshed. We're a peaceful people, dedicated to love for all and hatred for none," Ahmad was quoted as saying.

To be completed within a year, the mosque will be the first Ahmadi centre of worship in Canada. With a traditional dome and miraret (prayer tower), it will house 900 people at prayer. It will also include office space and a sports and community complex.

"I plan to commute every year for the children's summer camp, annual festivals, and whenever I feel my spiritual energy is low," he said.

Virk stressed that the ceremony was an inter-faith event, with representatives from Christian, Sikh and Muslim

religions laying a total of 36 foundation stones.

"It shows we are not bigots. We are opening the centre to people of all faiths."

The emphasis on peace and harmony reflects the desire of the Ahmadi community to be granted religious freedom in Canada. Virk is one of many Ahmadis who were forced to leave Pakistan because of persecution, he said.

The world's 10 million Ahmadis follow Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), who is believed to be the promised messiah foretold by the prophet Muhammed. But in Pakistan, Ahmadis are persecuted as heretics who have rejected the fundamental Islamic doctrine that Muhammed was the final

prophet of Allah.

Renewed persecution recently threatened Ahmadis in Toronto when in August six Muslim priests from Pakistan — belonging to the Khatm-e-Naboowat group to protect the finality of the prophet Muhammed — held a conference that according to a Globe and Mail report stirred up anger and hatred against the members of the sect.

But Virk says that Ahmadis do believe that Muhammed was the last prophet. "It's a matter of interpretation. Ghulam Ahmad is nothing without Muhammed."

Tahir Ahmad was guarded on Saturday by Ahmadi youth and police in civilian clothes, and the ceremony passed without violence.

GRATUIT

CITÉS NOUVELLES


Vol. 13 No. 35 MONTREAL, CANADA

• Circulation certifiée CCAB : 23,500


le 22 octobre 1986

• Roxboro • Pierrefonds • Ste-Geneviève • Ile Bizard • Kirkland • Dollard-des-Ormeaux • Pointe-Claire • Beaconsfield • Baie d'Urté • Ste-Anne-de-Bellevue • Senneville

Head of the International Ahmadiyya Movement in Islam, visited the West Island last month.



Right Honourable GERRY WEINER, the federal minister of state for immigration, in conversation with His Holiness and the Movement's Canadian National President Mr. Abdul Aziz Khalifa at Holiday Inn in POINTE CLAIRE.



His Holiness presenting a copy of the french translation of the Holy Quran and other Ahmadiyya literature to Monsieur Jacques Cardinal, the mayor of Ste. Geneviève at "AL-NUSRAT", the Ahmadiyya mission house located at 15795 Gouin West.

425 GRAND BLVD, SUITE 6, MONTREAL, QUE. H4B 2X2, CANADA



PRAGATI

VOL. 2 No. 10 MONTREAL OCT./NOV. 1986

The first and only multicultural and multilingual Indian monthly Newspaper from Quebec.

THE EDMONTON JOURNAL, BOX 2421
Edmonton, Alberta, Canada T5J 2S6
Circulation 350,000

THE EDMONTON JOURNAL, Saturday, September 20, 1986

— Religion —

Ahmadi leader will visit city

The Ahmadiyya head visits Canada

The head of the International Ahmadiyya Movement in Islam HAZRAT MIRZA TAHIR AHMAD, the 4th successor to the Promised Messiah, paid a brief 2 and a 1/2 day visit to Montreal from September 25 to 28, 1986. His first stop was in Toronto where he laid the foundation stone of the first Ahmadiyya mosque in Canada.

His Holiness's stay in Montreal was highlighted by a reception at the Holiday Inn in Pointe Claire followed by 2 and 1/2 hours of a highly intellectual dialogue with various religious scholars. An audience of about 300 people was enraptured by his eloquence and overwhelming logic. Similar dialogues were held in Edmonton, Calgary and Vancouver before His Holiness left Canada on October 6, 1986.

Its Canadian headquarters are located at "BAIT-UL-ISLAM", 10610 Jane Street, Maple, Ontario, LOJ 1E0, (416-832-2669), and the Montreal mission house "AL-NUSRAT" is located at 15795 Gouin Boulevard West in Ste. Genevieve (West Island), P.O. Box 361, Pierrefonds, P.Q. H9H 4L1 (514) 453-1973.



**HIS HOLINESS NAZRAT
MIRZA TAHIR AHMED**

The leader of the world's 10-million member Ahmadiyya Movement in Islam plans a visit to Edmonton later this month.

His Holiness Hazrat Mirza Tahir Ahmad, 57, will visit members of Edmonton's Ahmadi community Sept. 29 and 30. He will also give a public lecture and speak with local media.

The Ahmadiyya Movement, founded in 1889 by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, believes that its founder is the Messiah promised by various religions, including Islam and Christianity.

It faces an increasingly restrictive environment in Pakistan, where it is now headquartered, because of opposition from other Islamic groups. Those groups, which insist that Mohammed is the final prophet of Islam, say the group should not be permitted to call itself Islamic or Muslim because of its understanding of prophethood.

The Ahmadi, backed with reports from Amnesty International, say their places of worship have been desecrated and their religious freedom denied in Pakistan. They claim there is a "Pakistan-backed worldwide crusade to wipe out the sect."

The tour of Canada by Hazrat Ahmad comes only weeks after Muslim scholars visited here, asking the Canadian government to investigate the Ahmadi charges for itself.

Ahmad laid the foundation stone of the first Ahmadiyya mosque in Canada earlier this week and will be visiting members of the sect in Calgary and Vancouver, as well as in Edmonton.

Third Page

Ahmadiyya Moslems meet leader

By Kim Humphries
of the Star-Phoenix

To the 45 Saskatoon Ahmadiyya Moslems, a two-hour stopover Sunday night by the movement's world leader could be equated to the Pope giving an audience to local Roman Catholics.

Hazrat Mirza Tahir Ahmad, elected leader of the world's 10 million Ahmadiyya Moslems, rescheduled his cross-country itinerary to stop and meet with Saskatoon followers who make up some of the group's 2,500 members nationwide.

"I have come to convey a message of peace," he said in an interview at the local branch's house-turned-mosque on the 500 block of Avenue F.

Ahmad arrived last week to lay a cornerstone for the first Canadian mosque, located just outside Toronto.

The Ahmadiyya have purchased land in Calgary and hope to soon develop another mission.

"It (the Toronto mosque) is a house of peace for all mankind."

But the movement's message of goodwill is not reciprocated by some factions in Pakistan, where the organization has a strong presence.

The Pakistani native said he lives in exile in England, because of "religious persecution" in his homeland.



— S-P Photo by John Kenney

Hazrat Mirza Tahir Ahmad

Violence against the Ahmadiyya drastically escalated in 1984 when the current Pakistani regime issued Martial Law Ordinance 20.

Among other things, it forbade movement members to call themselves Moslems or refer to their faith as Islam.

Ahmadiyya, dating back to the 1890s, rejects mainline Islamic doctrine declaring that Mohammed was the last prophet of Allah.

Followers look instead to Hazret Mirza Ghulam Ahmad, the founder of the sect, as their spiritual leader. The man visiting Sas-

katoon is the fourth leader since the founder.

Ahmad claimed that he was the "promised one" uniting all religions, including Christianity, Buddhism, Hinduism and Moslems.

Unlike some Islamic groups, the Ahmadiyyas reject "Holy War" as a means of spreading Islam.

"Every day, the Ahmadiyya face such atrocities as having their eyes gouged because of their beliefs," Ahmad said.

He said followers in other countries face similar degrees of persecution through social and economic prejudice.

EDMONTON JOURNAL, P.O. BOX 2421, Edmonton, Alberta, Canada T5J 2S6
Circulation 350,000

THE EDMONTON JOURNAL, Saturday, October 4, 1986

Ahmadiyya: Christ has returned

The Second Coming, for many Christians, means the parting of the heavens, angelic choirs, blasts of trumpets and the New Jerusalem, with gates of pearl and streets of gold.

It would be hard to miss.

But a small group in Pakistan believes that: a) it already happened and b) most people missed it.

The Ahmadiyya Movement in Islam is a sect claiming 10 million adherents which believes its founder, Ghulam Ahmad, who died in 1908, was the returning Messiah predicted in Christian and Moslem scriptures.

Interviewed during a rare visit to Edmonton, the current head of the movement said Christian conceptions of the return of Jesus are based on misinterpretations of Scripture and of the character of Jesus.

Hazrat Mirza Tahir Ahmad, a friendly, athletic 56-year-old now living in exile in England because of religious persecution in Pakistan, says Jesus' followers should not expect a dramatic second coming. His first coming set a simpler style.

"Jesus appeared the first time as a very humble man, born in an enslaved country, Judea, where the Jews were expecting a deliverer and a very grand style."

But the Christ was "a very humble man, without weapons, who preached that if your face is slapped on one side you offer the other."

This same style was evident in the second coming of Jesus, Hazrat Ahmad said.

"If it was good for the first coming, it was also good for the second coming."

His group, which follows Moslem practices, believes that Jesus "never came to give temporal or material advantage, but to draw you away from materialism."

The glory of Jesus, he said, is not streets paved with gold but his "humility, his lifestyle, his lack of avarice, his quality of sacrifice."

Ahmadiyya views of Jesus and the Second Coming have brought condemnation from both Christians and Moslems. Christians object to placing Ghulam Ahmad on an equal plane with Jesus Christ, and other Moslems say Mohammed was the final prophet of God.



Hazrat Mirza Tahir Ahmad
... Ahmadiyya Movement leader

As a result of its beliefs, the sect faces severe repression in Pakistan. Its members are forbidden to call themselves Moslems or their faith Islam, and can be jailed even for using traditional Moslem greetings. Draconian legislation, including a constitutional amendment forbidding Ahmadiyyas to call themselves Moslems, "forces people to lie about their religion," something which no true Moslem ruler could accept, Hazrat Ahmad said.

The United Nations and Amnesty International have backed the Ahmadiyya claims of religious

persecution, but the Pakistan government insists that it cannot permit those it considers religious impostors to use the name of Islam.

Directors of the Canadian Islamic Centre in Edmonton, interviewed before Hazrat Ahmad came to Edmonton, accused the Ahmadiyyas of slandering Jesus.

They translated portions of Ghulam Ahmad's writings for The Journal. One portion, they say, accuses Jesus of making up lies, and suggests his miracles were all a hoax. Such suggestions are heresy not only to Christians, but to Islam, which reveres Jesus (as well as Abraham and Moses) as a prophet from God.

Hazrat Ahmad, a descendent of the Ahmadiyya founder, bristles at suggestions that his faith denigrates Jesus Christ.

Their founder, he said, is one who "claims to be the image of Jesus. How could he claim Jesus to be a liar?"

Ghulam Ahmad lived at a time when Islam faced a serious threat from the Christianity of India's British rulers, and in the religious debates of his time, "the language was far from civil," Hazrat Ahmad said. Ghulam Ahmad's writings about Jesus cannot be taken out of that context, he said.



Religion

CIRCULATION 360,000

CALGARY HERALD

Sat., Oct. 4, 1986 G9

Religious prejudice criticized

By Mark Tait

(Herald staff writer)

The head of the world's 10-million-member Ahmadiyya Movement in Islam pleaded for religious dialogue and offered a blunt critique of Western society's pursuit of pleasure during a visit to Calgary this week.

Hazrat Mirza Tahir Ahmad, of Rabwah, Pakistan, told guests attending a luncheon Wednesday the world would be better off if leaders of the major religions were prepared to discuss their spiritual claims as dispassionately as most scientists discuss their disciplines.

Too often, he said, religious leaders squabble over claims to lead this or that body of followers instead of leading an open-minded search for truth.

"Religion remains prejudicial and narrow-minded," he said. "You may remain a Christian or a Moslem, and you may, at the same time, lead a life that has nothing to do with Christianity or Islam, and no one will take offence."

But the moment religious leaders find their own followers straying towards another faith, he added, "You will find the blood boils and there is hatred where there should have been love.

"The hard fact is that man — in the field of religion — is still in the past. The attitudes are in the dark ages."

The disproportion between man's rocketing scientific progress and the snail's-pace of his moral and religious development spells danger for the future of mankind, he warned, because "the more powerful the machine becomes, the more skilful should be the operator.

"As long as politics does not learn a measure of absolute value or morality, there is danger."



Dean Bicknell, Calgary Herald

Hazrat Mirza Tahir Ahmad pleads for dialogue

Honored as the "supreme head" of the Ahmadiyya movement, Hazrat Ahmad made the remarks in response to questions posed by non-Moslem luncheon guests invited to the luncheon by Calgary's small, 100-member community.

His Calgary stay this week was part of a nationwide tour designed to raise the movement's profile in Canada and help Ahmadis explain their religious goals as citizens of this country.

The Ahmadiyya movement differs principally from mainstream Islam in that it reverses

the 19th-century Indian figure Mirza Ghulam Ahmad as a second prophet after Islam's seventh-century founder, Muhammad.

This belief is viewed by mainstream Sunni and Shiite Moslems as heretical, and a good deal of Hazrat Ahmad's time Wednesday was spent responding to a non-Ahmadi Moslem who questioned Mirza Ghulam Ahmad's status as a prophet.

His remarks on the moral decline of Western societies came

CONTINUED ON PAGE 27

THE OVERSEAS TIMES

Est. 1974. Published on 1st & 15th of each month. Readership: 70,000. 2nd Class Mail Redg. No. 4885.

Printed & published in BC Canada by Mastercraft Publications Ltd., 14919-38th Ave., P.O. Box 442, Surrey, B.C. V3T 5B6. Tel: [604] 588-8666/538-1651.

Largest circulation independent Indo-Asian community fortnightly newspaper in North America. Publisher & managing Editor (in Canada) Ben P. Sharma, Assoc. Editor Prakash Vyas, Contributing Editors: Dr. I.M. Muthanna, Lyle Pearson, Janardan Thakur, Madhur Mittal, Kamal Sharma & freelance journalists. Advertising Sales & Marketing: Bob Kumar. Photographer: Vicky Soorah, Typesetting & Graphics: Malti Sharma, Circulation & Subs: Ranjit Singh.

Correspondents & agents in Canada, USA, India, England, Pakistan, Fiji, East Africa Etc. Member of CARD, BC Ethnic Press, CEPF. Please address all correspondence to: The Publisher, The Overseas Times, Box 442, Surrey, B.C. V3T 5B6, Canada. Annual Subs: Can. \$15, USA \$25, Overseas \$40.

All Rights Reserved ©

THE OVERSEAS TIMES

Oct. 16-31, '86

A persecuted minority

Mirza Tahir Ahmed, fourth Caliph of the Ahmediyas, recently visiting Vancouver, met his followers and held a press conference on October 4 at the Hyatt Regency Hotel. Living in exile in England for the past two years, the Caliph believes a political coup isn't possible in Pakistan. Claiming no country should pass discriminatory laws against any religion, the Ahmediya Movement released a 4 page statement 'A Crisis of Conscience', *excerpted in the next issue.*



MIRZA TAHIR AHMED
Present head (fourth Caliph) of Ahmediyas living in England.

QUITE a sensation was caused in the world when the Parliament of Pakistan unanimously passed a resolution on September 7, 1974, holding that all groups of Qadiyanis were non-Muslims.

Qadiyani is yet another name for the Admediya Muslims, whose faith was founded by Hazrat Mirza Ghulam Ahmed of Qadian, the promised Messiah, in 1889 at Qadian, a township of 20,000 in Gurdaspur district, 17 km from Batala and 70 km from Amritsar.

The founder derived his ancestry from a Mughal family of Punjab, which had come here in the wake of Moghul Emperor Babar's invasion. One of his ancestors, Mirza Hadi Beg, was appointed a Qazi, or magistrate, with his headquarters at Qadian village. He had his jurisdiction over 70 surrounding villages.

A VISION

For generations, the family enjoyed the patronage of the Moghul rulers and then the British. Mirza Ghulam Ahmed (1836-1908) had a vision that he was the promised Messiah or Reformer to interpret the

true teachings of Islam.

Initially he had a small following, but gradually he appointed a number of missionaries. As the number of converts grew, there developed some hostility not only among the members of the other faiths but also among the Muslims, who believed that under the Quranic injunctions there could be no Prophet except Mohammed, or any messiah.

After the death of Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, Hazrat Maulvi Noor-ud-Din was elected the spiritual head of the faith, under whom the movement had made further progress. He, too, however, died in 1914, and Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmed was elected the second Messiah and head of the movement.

He happened to be a son of the founder, though the community did not lay down any rules to this effect. Under his stewardship, the movement

spread far and wide as the number of missionaries had increased and a number of

Ahmediya missions were established in several countries.

It was because of his aggressive style of missionary activities that a set of Muslim fundamentalists, headed by some pro-Congress leaders like Sheikh Hissam-ud-Din, Maulana Daud Ghaznavi, Ghasi Abdur Rehman, Maulana Ata Ullah Shah Bokhari and others launched a crusade against the Ahmediyas, describing their teachings and actions un-Islamic. They formed an organisation in the 1920s, known as Majlis-i-Ahrar.

They had started their campaign in the form of a civil disobedience movement by sending small jathas, or groups, to Qadian to oppose the Ahmediya campaign. Apprehending a law and order problem, the erstwhile British Government of India imposed a ban on assembly of five or more persons under Section 144, Criminal Procedure Code, which the Ahrars defied.

The Ahrar movement gained momentum. Their opposition had, however, boosted the Ahmediya movement, as many people who did not know anything about the Ahmediyas began to take interest in their preaching of religious toleration. They became either their supporters or followers.

While the Ahrar movement died its natural death, the Ahmediyas gained in strength, and their opposition aroused the curiosity of other Muslims to know more about it. Thus their numbers grew rapidly.

Continued on Page 26

A Persecuted Minority

Continued from Page 25

Now they claim to have at least one crore followers spread all over the world.

At the time of partition, Ahmediyas of Qadian, like other Muslims, migrated to Pakistan in large numbers, and only 313 persons were left behind to look after their headquarters. Nearly 30,000 were reported to have left for Pakistan, where their numbers swelled to about 40 lakh.

Unfortunately for them, however, other Muslims continued an anti-Ahmediya campaign, in spite of the fact that Chaudhri Zaffrullah Khan, the first Foreign Minister of Pakistan, was an Ahmediya by faith.

The Pakistan Government has, by a resolution of its supreme council, declared them non-Muslims though they are living in isolation in Rabwah, a township in the Jhang district. Pakistanis forget that Dr Abdus Salam, the Nobel Prize winner and an eminent physicist, is an Ahmediya and has to live in Italy for pursuing his further research work.

Several eminent men, including diplomats, have settled in Britain or the U.S.A., or other parts of Europe and Africa, where they have their missions. In various parts of Pakistan, there were outbreaks of violence in which the houses and shops of Ahmediyas were looted or set on fire and many of them were killed or maimed.

In 1965, Mirza Bashir-ud-Din Ahmed, the second Caliph and head of the faith, died. The third Caliph, Mirza Nasir Ahmed, who succeeded him, also died in Pakistan in 1982. The present head, Mirza Tahir Ahmed, is living in England.

COMMUNAL PEACE

In Qadian, Mirza Wasim Ahmed, a scion of the founder,

is the chief of the Ahmediya community in India. There are about 1,000 Ahmediyas in Qadian living in peace with their Hindu and Sikh neighbours. They are scattered in various parts of India. Their Indian population is estimated at about 30,000.

While they follow the Quranic injunctions strictly, they have faith in religious toleration and their leaders are often invited to address conferences and conventions of world religions in different parts of the world.

An Ahmediya is expected to contribute at least a 16th of his income to the common fund for missionary and other charitable works, with which they run schools and dispensaries and help brilliant students pursue higher studies.

Their main difference with other Muslims is based on certain interpretations of the Quranic prophesies. Their leaders profess brotherhood of man, love towards all and hatred towards none. They have published Islamic literature in most languages of the world and feel well entrenched despite their persecution in Pakistan and some other Islamic countries.

In view of the different systems of government in different countries where the Ahmediyas have been living or have settled, the injunction given both by the founder of the faith and his successive Caliphs is that they should be loyal to the country of their adoption. This has naturally given them the status of a harmless community.

Trail of anger

(CONTINUED FROM PAGE 10)
sul, according to Pakistani news reports.

According to human rights organizations, what also focuses public anger against the Ahmadis is a Pakistani law. The ordinance threatens Ahmadis with three-year jail terms if they represent themselves as Moslems by saying Moslem prayers or describing their place of worship as a *masjid* (mosque).

The ordinance, passed by President Mohammed Zia ul-Haq in 1984, has been condemned by several human rights groups such as Amnesty International, the United Nations Commission on Human Rights and the Lawyers Committee for Human Rights in New York.

The official sanctions against the Ahmadiyya sect were started by former Pakistani prime minister Zulfikar Ali Bhutto, who was hanged by the current Government.

Under Mr. Bhutto's auspices, the Pakistani Parliament declared the Ahmadis non-Moslems. Their passports were so stamped and hence they were denied entry to Saudi Arabia to perform the pilgrimage at Mecca, one of the five pillars of Islam.

That the Khatm-e-Nabooat has official sanction in Pakistan becomes clear from a message Gen. Zia sent to the conference in London last year. In it, he said: "We will, Insha'Allah (God willing), persevere in our effort to ensure that the cancer of Qadianism (another name for the sect, whose founder was born in Qadian, India) is exterminated."



CONTINUED FROM PAGE 18

Refugees from orthodox Islam follow separate ways in Montreal

Religion

Religious prejudice criticized

CONTINUED FROM PAGE 24

later when he was asked why he had courteously but firmly declined to shake hands with women guests at the luncheon.

The practice, he said, was part of Islam's emphasis on separation of the sexes outside of marriage.

Such separation is considered vital, he argued, because Islam teaches that easy access to the animal pleasures of sex will debase man's nature, turning him away from higher forms of love such as devotion to family and the social good.

By itself, a handshake may seem innocent, he said, but casual contact between the sexes tends inevitably towards temptation. Sexual activity should be confined to its God-ordained function of human reproduction.

With the decline of Christianity's influence during the past two centuries, he said, Western societies have forgotten this. The result is that social distress and family instability are much higher than they should be because people believe even the most sensual pleasures should be open to them. "Christianity has nothing to do with your current social values," he said. "More and more licence has been asked, and more and more licence has been given."

Château Frontenac Hotel in Québec City and the Montreal Museum of

Fine Arts, also designed one of the principal Baha'i buildings, the Mausoleum of the Bab (regarded as the precursor of Baha'u'llah) at what is now Haifa, Israel.

Abdu'l-Baha, son and successor of Baha'u'llah, stayed in the Maxwells' house for three days of a nine-day stay in Montreal in 1912 during a North American tour. The house, at 1548 Pine Ave. W., is now owned and maintained by the Bahai's as a shrine.

Baha'i groups meet every 19 days for prayer, meditation, discussion and socializing. Baha'i practices include daily prayer, a March fast and avoidance of alcohol. Bahai's are law-abiding but try to avoid military service and party politics.

All Baha'is join the faith by choice: children of Baha'is can choose whether they want to do so once they are 15 or older.


Moss said that, far from there being any Baha'i-Moslem tension in Montreal, there are a few Persian-origin Baha'i partners in Baha'i-Moslem marriages. This is interesting, since Baha'i insists any marriage of a Baha'i must have the consent of all living parents on both sides.

Canadian Baha'is are keenly aware of the sufferings of their co-religionists in Iran and have sponsored many of the refugee immigrants. But Moss said Canadian Baha'is are not obsessed with the situation.

CONTINUED FROM PAGE 7

PRESS REPORT OF HAZUR'S VISIT

We believe that Jamaat Ahmadiyya Canada received a fair amount of newspaper, Radio and TV coverage during Hazur's visit. This exposure of our community at this wide scale had not happened before. Although, there is a lot of ignorance and misunderstanding about our community and this has also reflected in some of the newspapers reporting, however, we are trying our level best to introduce our community in the most positive sense. May Allah help us in our efforts. Amin.



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ • مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ الْكَرِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ماہنامہ

احمدیہ گزٹ

پورٹ
کینیڈا

بلغ انچارج - نسیم مہدی  ایڈیٹر - حسن محمد خان

۱۳۶۵ ہجری شمسی نومبر ۱۹۸۶ء دسمبر ۱۹۸۶ء ہجری قمری

دورہ کینیڈا کے بارہ میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابعیہ اللہ تعالیٰ کا اپنا مآثر

حضور انور نے دورہ کینیڈا سے واپسی پر لندن میں خطبہ جمعہ فرمودہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۸۶ء میں فرمایا :-

جہاں تک دورہ کینیڈا کا تعلق ہے یہ اپنی ذات میں نہایت ہی ضروری تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے نتیجے میں انشاء اللہ جماعت کی ترقی کے بہت سے سامان پیدا ہوئے گئے۔ یہ دورہ خدا کے فضل سے نہایت مصروف تھا اور اس خیال سے کہ بار بار موقع نہیں مل سکتا، جماعت نے حتی المقدور میرے وقت کا بہترین استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اندرونی اور بیرونی رابطے کے لحاظ سے اس دورے کا مجھ پر بڑا اچھا اثر پڑا ہے۔ جماعتی طور پر بھی کہ جماعت کینیڈا نے گزشتہ چند سالوں میں تربیتی لحاظ سے غیر معمولی ترقی کی ہے اور اس ترقی کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرف طبیعت مائل ہوئی۔ مشرق سے مغرب تک اس ملک کے اندر جو سفر اختیار کیا اس تمام عرصے میں جماعت میں بیداری کی نمایاں روح دکھی ہے۔

حضور نے جماعت احمدیہ کینیڈا کے بیرونی رابطے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بھی بیڑنی دنیا سے واضح اور مضبوط ہو گیا ہے اور اس کثرت کے ساتھ جماعت نے اپنے ماحول کو اپنے آپ پر واضح کیا ہے کہ جہاں جہاں بھی مجالس سوال و جواب ہوئی ہیں جماعت کے ابتدائی تعارف کی ضرورت نہیں پڑی۔

حضور نے کینیڈا میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ہونے والے پروگراموں کا تفصیل سے ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ان سب پہلوؤں پر جب میں غور کرتا ہوں تو دل اللہ کے شکر سے بھر جاتا ہے (صفحہ ۳ پیر جاری)

خلافتِ رابعہ کا تاریخی، بلا دورہ کینیڈا سیدنا حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ کی مصروفیات، ایک نظر میں

سسکھاؤن میں ٹی وی کے نمائندہ کو انٹرویو
روڈ ٹائی برائے ایڈیٹمنٹ (البرٹا)

۲۹ ستمبر (سوموار) LIVE RADIO TALK SHOW
CJCA ریڈیو پر ایک گھنٹہ انٹرویو
پرفنسز کا کنفرنس سے خطاب

بعض Native انڈین سے ملاقات

۳۰ ستمبر (منگل) CITY کو ایک گھنٹہ LIVE ٹاک شو
ملاقاتیں
لیکچر بعنوان "انسائٹ کا مستقبل"

۱ اکتوبر (بدھ) ریڈیو برائے کیبل ٹی وی - استقبال، مستورات سے خطاب

۳ اکتوبر (جمعہ) نماز جمعہ اور ملاقاتیں

۴ اکتوبر (ہفتہ) ملاقاتیں، معاونہ مسز ڈیوڈس، تھریڈز میں عطیہ از
مکرم چوہدری محمد الیاس، امریکا آف کینیڈا کی
روڈ ٹائی برائے ڈیسکوور

استقبال، اور سوال جواب (بغیر جماعت افراد)

پرفنسز کا کنفرنس اور مجلس عرفان

۵ اکتوبر (اتوار) ملاقاتیں اور جونیائی رابرٹ ایف ڈیوڈس کا سفر
مجلس عرفان

۶ اکتوبر (سوموار) ملاقاتیں، اخبار و نیوویور SUN کی نمائندہ

سے انٹرویو، LIVE ٹی وی انٹرویو
کچھ وقت نیٹے حضور، Expo 86 دیکھنے کے لیے
(رات دس بجے واپس لندن روانہ ہوئے)

۱۸ ستمبر (جمعرات) شام ۷ بجے ٹورنٹو میں حضور ازرا کا ورورڈ سٹور

۱۶ ستمبر (جمعہ) سی بی سی ریڈیو پر حضور کا Live انٹرویو
نماز جمعہ پر دعائی اور خطبہ ارشاد فرمایا۔
ٹاؤن آف وان کی لیڈی ٹمبر سے بیت الاسلام میں ملاقات
اور احباب جماعت سے ملاقاتیں

۲۰ ستمبر (ہفتہ) کینیڈا میں پہلی اجریہ مسجد کی سنگ بنیاد کی تقریب
بدر روہر کھانا اور معززین سے ملاقات
مجلس منوری (نمائندگان کینیڈا اور USA) سے خطاب

۲۱ ستمبر (اتوار) دن بھر احباب جماعت سے ملاقات
نور نماز مغرب و عشاء مجلس عرفان

۲۲ ستمبر (سوموار) ملاقاتیں اور نوٹ شام مجلس عرفان
۲۳ ستمبر ملاقاتیں

۱۵ ستمبر (جمعرات) کانٹرول میں شریف آوری، معاونہ مسز ڈیوڈس
اور ازرا جماعت سے ملاقات

۲۶ ستمبر (جمعہ) نماز جمعہ - ملاقاتیں اور مجلس عرفان
۲۷ ستمبر (ہفتہ) ملاقاتیں

وزیر نیڈرل امیگریشن حضور سے ملنے آئے
استقبال اور مجلس سوال و جواب میں شرکت

اجتماعی کھانا جس میں MAYOR مجریٹاں ہونے
۲۸ ستمبر (اتوار) الوری ملاقات اور روڈ ٹائی برائے لائی بیگ

وئی بیگ ایروپٹ پر بعض افراد جماعت سے ملاقات
آئی سسکھاؤن، معاونہ مسز ڈیوڈس اور ملاقاتیں

سسکھاؤن میں اخباری نمائندہ کو انٹرویو

(مقطعہ ایکسے آئے)

کہ دورہ بہت ہی کامیاب اور دل کو مطمئن کرنے والا تھا۔

یہ ملک ایسا ملک ہے جہاں امید کے بہت سے پہلو نظر آئے ہیں۔ دنیا کی تمام جماعتوں کو
اس ملک کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا چاہیے۔ یہ اسلام کے لئے خدا کے فضل کے ساتھ مستقبل
کی سر زمین بننے والا ہے۔

آخر میں فرمایا کہ کینیڈا میں کام کی بہت گنجائش ہے اس لئے کینیڈا کی سر زمین کو بہ پہلو سے
دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سعادت کو بڑھائے اور جو نیکی انہوں نے جماعت سے کی
ہے اس کی جزاء دے۔

سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ

کے کنیڈا میں فرمودہ خطبات جمعہ کے خلاصے

خطبہ جمعہ فرمودہ ۱۹ ستمبر ۱۹۸۶ (ٹورنٹو)

”اس مادیت پرستی کے اثر کے ماتحت آئندہ نسلوں سے جماعت کو کاغذ دھو پرینے دیں گے“
”امریکہ اور کنیڈا میں جماعتی تربیت اور اولادوں کو صحیح راہ پر قائم رکھنے کیلئے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے“
(حضرت انور کا استہاب)

اضطراری کیفیت بیان فرمائی اور دردمندانہ لہجہ اور انداز میں احباب جماعت کو توجہ دلائی کہ اپنے اپنے احساس کی بھڑائی کریں۔ اس بدلتے ہوئے حالات کو محسوس کریں اور اس درد کو محسوس کریں جس سے تکلیف پیدا ہوتی ہے جب در وہی محسوس نہیں ہوگا تو اس کا علاج کیونکر ہوگا۔ آپ دین کا احساس زندہ کریں۔ ان اولادوں کی امانت کی ذمہ داری کو ذمہ داری سے نبھائیں جو ہدایات میں شہودی کے اجلاس میں دونوں کا ان پر مسلسل عمل ہونا چاہیے اور جماعت مجلس عاملہ کے اجلاس میں ان ہدایات کا جائزہ لیتی رہے تا ان ہدایات پر عمل درآمد کی یاد دہانی ہوتی رہے۔ فرمایا میں نے اس سے قبل نماز باجماعت کی تلقین کی تھی کچھ عرصہ اس پر عمل ہوا اور پرستی نظر آئی تھی۔ عبادت ہماری زندگی میں ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہے حضور نے فرمایا میرے لئے یہ دعا لکریں کہ آپ کی اصلاح کا احساس میرے دل سے مٹ جائے اگر یہ احساس مٹ گیا تو اس سے آرزوئیں کس طرح روشن ہو سکیں گی۔ دعا کریں کہ یہ تکلیف وہ احساس میرے دل میں قائم رہے۔

خطبہ جمعہ فرمودہ ۲۶ ستمبر ۱۹۸۶ (مانٹریل)

”پروہ کا مضمون بار بار یاد دہانی کے لائق ہے“
”اسلامی تہذیب کو مغربی تہذیب پر فائق کر کے دکھائیں“
(حضرت انور کا ارشاد)

تشریح: اتھوڈا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا زندگی بجز فریادی حالت کے مطابق توضیح رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ یا تو زندگی بجز فریادی حالت کے تباہ ہو کر مدغم ہوگئی اور اس میں بدافعت نہ رہی یا زندگی ان بجز فریادی حالت سے ڈر جائے کی بجائے ان سے دفاعی رد عمل ظاہر کیا اور زندگی نے بجز فریادی حالات پر غالب آنے کی سعی اور کوشش کی یعنی یا تو زندگی نے حالات سے سمجھو کر لیا اور یا حالات پر غالب آگئی اور قابض ہوگئی۔ فرمایا: ایک تیسری شکل بھی نظر آتی ہے۔ نہ یہ طاقت تھی کہ زندگی حالات پر غالب آئے نہ یہ طاقت تھی کہ حالات کے مطابق ڈھل جائے۔ تیسری صورت میں زندگی پر موت وارد ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ شکل اور صورت تاریخ کی گہرائیوں میں ڈوبنے سے ملتی ہے موت ان پر غالب آگئی اور وہ زندہ نہ رہنے دئے گئے۔ فرمایا اس میں منظر میں آج جماعت امریکہ اور جماعت کنیڈا سے خطاب کرتا ہوں۔ ایک بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ امریکہ اور کنیڈا کے مسائل کے لئے یورپ کے مسائل کے طریق کار سے مختلف طریق کار اختیار کرنا ہوگا۔ فرمایا یہ میرا تجربہ ہے اور میں نے اپنے خطبوں کے درمیان اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ یورپ کے مقابلہ میں امریکہ مادہ پرستی میں بہت آگے ہے اور اس کے بعد کنیڈا بھی مادہ پرستی کا شکار ہے۔ کوئی دو خاندان یورپ اور امریکہ یا کنیڈا میں آباد ہوں ان کا موازنہ کرنے سے نتیجہ ظاہر و باہر ہوگا۔ امریکہ یا کنیڈا میں آباد ہونے والا خاندان یورپ والے خاندان کی نسبت زیادہ مادہ پرستی کا شکار نظر آئے گا۔ گو عملاً دونوں خاندانوں کو اس طرح آباد کر کے تجربہ نہیں کیا گیا۔ حالات بتاتے ہیں کہ اس طرح ضرور ہوگا ان حالات میں امریکہ اور کنیڈا میں جماعتی تربیت اور اولادوں کو صحیح راہ پر قائم رکھنے کے لئے بہت زیادہ توجہ، کوشش اور جدوجہد کی ضرورت ہے۔ فرمایا میرا ان حالات کا تجربہ یہ کرنے کے نتیجہ میں تجربہ اور گہری نظر سے مطالعہ بتاتا ہے کہ اس مادیت پرستی کے اثر کے ماتحت آئندہ نسلوں سے جماعت کو ہاتھ دھونے پڑیں گے اس لئے یہ امر بے حد ضروری ہے کہ حالات کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ مومن کا ایک مزاج ہوتا ہے اور وہ سچ ہے۔ مومن کا اول بھی سچ ہے اور اس کا آخر بھی سچ ہے۔ مغربی اقوام نے نہایت اذیت

سے مسلسل کے ساتھ کوشش کر کے موجودہ ترقی کے انتہائی معیار کو حاصل کیا ہے۔ فرمایا جو چیز اس وقت مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ذہنی معیار اور آپ کی اولادوں کا ذہنی معیار ایک نہیں ہے جو ذہنی معلومات آپ کی ہیں۔ دین کی طرف جتنی رغبت آپ کی ہے آپ کی اولادوں کا ذہنی حالت اس جیسی نہیں، بلکہ بعض حالات میں میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے اور دیکھا ہے کہ آپ کی ذہنی حالت آپ کی نسلوں کی ذہنی حالت کے مقابلہ میں بے حد قابل افسوس ہے۔ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے جماعتی طور پر منصوبہ بندی کی جانی چاہیے۔ انفرادی طور پر بھی کوشش ضروری ہے اور جماعتی طور پر بھی خاص توجہ اور انتظام سے کوشش کی جانی لازمی اور ضروری ہے۔ فرمایا ہر احمدی گھرانہ اس بات کا جائزہ لے گیا کہ میں نے کہا ہے۔ اس کی ابتداء آپ کے گھروں سے ہونی چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو سکے، خاموشی اور کمی نظر آئے تو اصلاح کریں اور حالات پر بہرہ رمت سے اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کریں۔ ہر خاندان فیصلہ دیا نہتہ داری سے کرے میں توجہ دلاتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کے رجحان اور تہذیب کی طرف رغبت کے فقدان کو نظر خاطر سے دیکھیں اور آئندہ نسلوں کی حفاظت کے لئے اپنے اندر بے تفریق پیدا کریں۔ اس سارے ماحول کو دیکھ کر حضور انور نے اپنی انتہائی

حضور نے تشریح، اتھوڈا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد آیت کریمہ
مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ آج کے خطبہ کے لئے میں نے تربیتی مضمون چنا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بظاہر اس کا تعلق دکھائی نہیں دیتا مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت اہمیت محمدیہ کی تربیت سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے۔ فرمایا: ٹورنٹو میں ایک مجلس خاتون نے پروہ کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اس کے سوال میں طعن کا رنگ تھا۔ اس سچی کا سوال اس لائق ہے کہ اس پر توجہ دی جائے۔ سوال یہ تھا کہ پروہ پر جو زور دیا جاتا ہے اس پر عمل یوں ہوتا ہے کہ مشن ہاؤس میں تو خواتین سر ڈھانپ لیتی ہیں اور پروہ کا ادنیٰ معیار پورا کر رہی ہوتی ہیں لیکن جب باہر جاتی ہیں تو خوب بکھج بکھج کر جاتی ہیں اور پروہ کا نظریہ خیال نہیں کرتیں۔ فرمایا: میں نے کئی مرتبہ جماعت کو اس طرف متوجہ کیا ہے لیکن مغربی دنیا میں خصوصیت سے یہ مضمون بار بار یاد دہانی کے لائق ہے۔ پروہ کے بارے میں ہماری تحویلیں کے دو گروہ ہیں پہلا جو پاکستانی طرز کے برقع میں ملبوس پروہ کی پابند ہیں۔ دوسرا جو پروہ سے باہر نکلنے کے آخری کٹا ہونے پر کھڑی ہیں جب نصیحت کی جاتی ہے تو چادر لے لیتی ہیں اور جب نصیحت میں ذرا دیر ہو جاتی ہے تو وہ چادر اتار لیتی ہیں جس سوسائٹی میں وہ ہیں اس کے حالات مختلف ہیں۔ وہ باغیانہ خیالات کا اظہار تو نہیں کرتیں لیکن ان کے دل مطمئن نہیں اور ان میں ٹوٹ جانے کا رجحان قائم رہتا ہے۔ پہلے گروہ کے دو حصے ہیں اول جنہو پروہ کی پابندی میں اور دوسروں کے لئے دعا کرتی ہیں۔ یہی ہیں جو صداقتات کھلانے

کی مستحق ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو نادانی کے نتیجے میں یا نیکی کے سبب میں مبتلا ہو کر جماعت کی خواہش کو چرکے لگاتی ہیں اور وہ اپنی اس نیکی کو کہہ کر وہ رہی ہیں خدا پر ایک احسان سمجھتی ہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نیکی کی توفیق بخشی ہے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کو نیکی کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اِنِّی بَعَثْتُ لَا تَسْمَعُ مَكَارِمَ الْاِخْلَاقِ كَرِهِيْنَ جَوْنِيْ كَيْفَ اَخْلَاقٍ يَرْفَعُ كَيْفَ يَسْتَجِيْبُ جِيْزَةَ اَخْلَاقٍ كَمَا سَفَرًا يَكُلُ لَا مَتَانًا هِيَ سَفَرِيْ۔ اس پہلو سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر ہر شخص بد اخلاق ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تو وہ ہرگز ہرگز تربیت نہ کر سکتے۔ آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے محبت اور پیار سے ہر فرد کو واحد کی تربیت کی اور ہر ایک پر رحمت کی نظر ڈالی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بے جان چیزوں سے بھی محبت اور پیار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع میں درخت کے تنے کا سمارالے کو خطبہ دیا کرتے تھے جب منبر بن گیا تو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ چھوڑی دیر کے بعد آپ دوبارہ درخت کی طرف تشریف لے گئے اور آپ نے درخت کے در کو محسوس کیا جو اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوری کی وجہ سے محسوس کیا تھا حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم نے تربیت کرنی ہے تو ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت کا طریق بھی سیکھنا ہو گا۔ تربیت میں لغت اور فحشہ کا کوئی کردار نہیں اور اس سے دور کا بھی تعلق نہیں۔

حضور نے فرمایا: میں دوبارہ مردہ کے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ احمدی خواتین پر مغربی تہذیب کے بارہ میں بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ نیکی دراصل وہی ہے جو باقی رہ جاتی ہے۔ الباقیات الصالحات میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ نیکی وہ ہے جو بقا و پائے کی اہلیت رکھتی ہو۔ ایسی خواتین جو پردہ کی پابندی نہیں جب ان پر سے داؤد اٹھ گئے اگر ان کی پردہ کی پابندی والی نیکی مسترد کی جاتی ہے تو وہ باقی رہتی اور ان کے کبھی بھی الگ نہ ہوتی۔ اس وقت اسلام کی نمونہ مغربی تہذیب سے ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم اسلام کی معاشرت اور اسلام کی تہذیب کو مغربی تہذیب پر فائق کر کے دکھائیں۔

حضور نے فرمایا: میں نے بارہ بتایا ہے کہ پردہ کے لئے بڑے ضروری نہیں برقع پردہ سے کا ایک ذریعہ ہے ہم نے برقع کو پردہ بنایا تھا۔ حالانکہ برقع میں بہت سخت پردہ ہے اس پردہ کی نسبت جس کا اسلام میں ذکر ہے کئی جگہوں پر برقع پنجاب کے برقع سے بھی زیادہ سخت شکل میں موجود ہے۔ احمدیت کا برقع دوسرے برقعوں سے آسان ہے، نسبتاً آسان ہے۔ ہم نے برقع کو پردہ بنایا ہوا ہے۔ اس برقع کو چھوڑنے کے لئے طرح طرح کے عذر اور بہانے نفس نے تراشے اور احساس کسری کی بنیاد پر برقع کو الگ کر دیا یعنی پردہ چھوڑ دیا۔ دنیا کیا ہے کی کو کتنی پیمانہ اور غیر ترقی یافتہ یہ برقع پرش خواتین ہیں اور منہ مندی سے اپنی گردن کو جھکایا اور پھر مغربیت کے اثر کے نیچے گدگداتی ہی چلی گئی۔

فرمایا: دوسری خواتین جو ہیں وہ بہانے تلاش کرتی ہیں اور ضد کرتی ہیں کہ ثابت کرو کہ قرآن میں برقع کا کہاں ذکر ہے۔ دراصل وہ برقع سے آزاد ہونا چاہتی ہیں۔ برقع ضروری نہیں ہے تنگ برقع چھوڑ دیں لیکن اسلام کی تعلیم کے مطابق پردہ کر لیں اور کسی کو کوئی حق نہیں کہ ان پر اعتراض کرے ہم اسی لئے بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ کم سے کم یہ پردہ ہے تم اس سے زیادہ کی کوشش کرو۔ میں کم سے کم پردہ کے لئے کیوں کہتا ہوں اس لئے کہ اس کے نیچے پردہ کی ساری روح قائم ہے۔ حضرت اندرس بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ نے جو پردہ کی روح بیان فرمائی ہے اس روح کی حفاظت کریں اور اس روح کو نہ مرنے دیں۔

فرمایا: نیکی کی طرف جانے کا راستہ ایک UP HILL TASK ہے اور بدی کی طرف جانے کا راستہ نیچے جانے کا راستہ ہے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت پر دہش گزارا زیادہ محنت کریں تب ہی اولاد نیک رہ سکتی ہے۔ اگر آپ نیکی کی طرف دس قدم جائیں گے تو اولاد ایک قدم آگے جائے گی اگر آپ بدی کی طرف یعنی نیچے کی طرف ایک قدم جائیں گے تو آپ کی اولاد دس قدم نیچے جائے گی۔ آپ اس بنیاد اصول کو یاد رکھیں کہ جب آپ نیکی کی طرف دس قدم آٹھائیں گے تو اولاد صرف ایک قدم ہی آگے جائے گی سوائے اس کے کہ آپ دس گنا زیادہ محنت کریں۔

فرمایا: جماعت احمدیہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے ساری دنیا کو فتح کرنا ہے۔ ایسی قوم کہیں کا دعویٰ ہو کہ ساری دنیا کو فتح کرنا ہے۔ جب اس قوم کے نمائندے غیر ممالک میں سفیر بنتے ہیں تو ان کو موثر ہونا چاہیے اور دوسروں کو متاثر کرنا چاہیے اگر وہ خود متاثر ہونا شروع کر دیں تو پھر راجح شکت

کی طرف ہونا چاہئے۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے آیت خاتم النبیین میں خاتمیت کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے اس کی بہت مصالح ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کا اثر محمدی کی تربیت سے گرا تعلق ہے۔

حضور نے آیت خاتم النبیین کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے ایسے ویسے مردوں کے باپ نہیں بلکہ انبیاء کے بھی باپ ہیں اور انبیاء کی شکل تشکیل کرنے والے ہیں۔

جماعت احمدیہ کی تشریح اور تفسیر کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مہر ہیں جو تصویر بناتی ہے۔ یاد رکھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خاتم النبیین ہیں کہ ان کا اثر ہر قوم اور ہر گروہ پر پڑنے والا ہے نہ کہ ان کی قوم اور امت پر دوسروں کا اثر پڑے ہم تو اس مہر کے قابل ہیں جو دوسروں پر اثر کرنے والی ہے۔ تم کون سے مرد لے پھرتے ہو جن کا محمد باپ نہیں۔ محمد وہ باپ ہیں جو سب کی اولادوں پر اثر ڈالنے والا ہے۔ تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو سمجھو اور غروں سے اثر کو قبول کرنے والے نہ بنو۔ ساری قومیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے زیر نگیں آنے والی ہیں۔ اپنی تہذیب کی قدروں کو سمجھیں اس میں ہی آپ کا سکون مضمون ہے۔ پس پردہ ہو یا دیگر اخلاقی تقاضے ہوں، یہی وہ میدان ہے جس میں آپ نے فتح حاصل کرنی ہے۔ آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کی حفاظت کریں، حفاظت کا حق ادا کریں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا پیارا کلام ہے کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے جنت حاصل ہوگی۔ محبت اور پیار سے نصیحت کرتے جائیں اسی طریق سے کامیابی حاصل ہوگی۔



خطبہ جمعہ فرمودہ ۳ اکتوبر ۱۹۸۶ (کبیلہ)

”آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس دنیا کا مال یا اس دنیا کا مال بھی اور آخرت کا مال بھی۔ اپنے آپ کو خدا کا دوست بناؤ، اپنے بھوکو بھی تلقین کرو کہ خدا کے ساتھ دوستی قائم کرو“

تشمہ تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور اقدس نے سورہ آل عمران کی درج ذیل آیات تلاوت فرمائیں:

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ۝ السِّدِّقِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ ذِكْرًا وَّعَلٰى جُجُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَتٰنًا مَّا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا وَّجٰهًا سُبْحٰنَكَ فَقَدَا عَدَابِ النَّارِ ۝ رَتٰنًا اِنَّكَ مِنْ شَدِيْدِ النَّارِ لَقَدْ اَخْرَجْتَهُ ۝ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارِهِ ۝ رَتٰنًا اِنَّا سَمِعْنَا مَسٰدِیْثًا شِدَادًا لِلَّذِيْنَ اٰن اٰمَنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاَمَّا تَجِدُوْنَ رَتٰنًا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مِنَ الْاَنْزَارِ ۝ رَتٰنًا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عٰلٰی رَسُوْلِكَ وَآلِ تَحْزِيْنًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۝ اِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْوَعْدَ ۝

فرمایا کہ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے نشانوں پر غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ سب خدا نے بیگانہ بنائے۔ وہ اس زندگی کا مقصد پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف بعض ایسے لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کے نشانوں کو دیکھ کر بھی سبق نہیں لیتے اور سوچتے ہیں کہ وہ اپنے خدا کو کبھی نہیں ملیں گے۔

فرمایا: خدا تعالیٰ نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی۔ بعض لوگ اس دنیا کو صرف مادی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس دنیا کے اموال حاصل کرنا ہی ان کا مقصد ہوتا ہے اس کے بدلے ان کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ اس بات پر بھی غور نہیں کرتے کہ دنیا کو کس نے بنایا ہے۔ فرمایا: خدا تعالیٰ مکمل انصاف کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو اس دنیا کے مادی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا ہے۔ ان کے دل ان کی مال کی وجہ سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ

حالات مغربی قوموں کے ہیں۔ انہوں نے اس دُنیا کے فوائد حاصل کرنے کے لئے پورے ذرا لُح استعمال کئے اور اس دُنیا کا مال حاصل کر لیا۔ یہ خدا تعالیٰ کے قانون انصاف کے مطابق ہوا اور انہوں نے غور و خوض کیا۔ فرمایا: اسلامی قوموں نے غور و خوض کی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے۔ مغربی قوموں نے اگر یہ اس دُنیا کے نعمات کو حاصل کرنے کے لئے لیکن آخرت کے لئے ان کے پاس کچھ نہیں سوانے جہنم کی آگ کے جو کچھ بھی انہوں نے حاصل کیا یہاں ہی رہ جائے گا۔ انہوں نے جو اس دُنیا کے فوائد حاصل کئے وہ بھی جھوٹے ہیں وہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔

فرمایا: مغربی قوموں کو جب بھی موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں یاد کرایا جاتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کس طرح دوبارہ زندہ کئے جائیں گے یہ ممکن نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا انصاف ہر ایک پر پورا ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو دنیا پر تدریسی سے کوشش اور محنت کرتا ہے خواہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہے یا نہیں خدا تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں کو بھی ان کی کوششوں کا اجر دیتا ہے تو ایمان لانے والوں کو وہ اجر کیوں نہیں دے گا۔ فرمایا: بہت سارے مسلمان جو مغربی ممالک میں آکر رہائش پذیر ہوتے ہیں تو وہ ان قوموں کی اقدار سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کی دنیاوی جاہ و جلال کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک راستے پر ہیں اس طرح وہ اسلامی روایات اور اقدار کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ فرمایا: آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس دُنیا کا مال یا اس دُنیا کا مال بھی اور آخرت کا مال بھی۔ آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس

دُنیا کے بعد بھی ایک دُنیا ہے۔ قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ آپ اس دُنیا کو کھٹے چھوڑ دیں خدا تعالیٰ مادی اموال میں اور روحانی اموال میں ایک توازن قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم روحانی اموال کو حاصل کرنے کی سچے دل سے کوشش کرو گے تو دنیاوی اموال تمہارے پیچھے آئیں گے حضور نے فرمایا: آپ خدا تعالیٰ کے دوست بن جائیں۔ اولیاء اللہ بن جائیں۔ جب آپ کسی کو دوست بناتے ہیں تو کیا آپ اس کو کسی چیز کا آدھا حصہ دیں گے؟ ایسا دوست جس کے ساتھ آپ کو محبت ہے اس کو پورا حصہ دیں، وہ نہ صرف پورا آپ کو کومادے کا بلکہ اس سے زیادہ واپس دے گا۔ فرمایا: احدیوں کو خدا تعالیٰ کے ساتھ پورا اور مکمل تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو خدا کا دوست بناؤ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے بچوں کو بھی تعلقین کر کے خدا کے ساتھ دوستی قائم کرو۔ ان کو روزانہ بتاؤ کہ خدا ہی سب کچھ ہے اس سے تعلق پیدا کرو۔ حضرت باقی سلسلہ عالیہ احمدیہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو جوئے کا سہہ چاہیے تو خدا سے مانگو۔ جب بھی کسی شے کی ضرورت ہو تو خدا سے کہہ کر اس سے مانگو۔ ہر وقت خدا تعالیٰ کے بارے میں سوچو اس طرح ایک رجحان پیدا ہو جائے گا پھر آپ کو خیال آئے گا کہ مانگ تو رہا ہوں لیکن میں خدا کو دے کیا رہا ہوں۔ فرمایا: محبت ہی ایک ایسا جذبہ ہے جو راستے بھی دکھاتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ سے محبت ذاتی نہیں تو پھر آپ ہر وقت دنیاوی باتوں سے ڈرتے رہیں گے۔ احدیوں کو خدا تعالیٰ سے محبت پیدا کرنی ہوگی اس محبت کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے فضل آپ کے اوپر نازل ہوں گے۔

خطبہ جمعہ فرمودہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۸۶ء (لندن)

کینیڈا سے واپسی کے بعد حضور انور نے، جماعت کینیڈا کو ان کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں بارہ میں فرمایا

”یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں امید بہت پہلو نظر آئے ہیں، یہ اسلام کھیلنے والے فضل کے ساتھ مستقبل کی سرزمین والا ہے“

”کینیڈا میں کام کی بہت گنجائش ہے“ (حضرت خلیفۃ المسیح الرابعی)

حضور نے کینیڈا میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ہونے والے پروگراموں کا تفصیل سے ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ان سب پہلوؤں پر جب میں غور کرتا ہوں تو دل اللہ کے شکر سے بھر جاتا ہے کہ دورہ بہت ہی کامیاب اور دل کو مطمئن کرنے والا تھا۔

یہ ملک ایسا ملک ہے جہاں امید کے بہت سے پہلو نظر آئے ہیں۔ دُنیا کی تمام جماعتوں کو اس ملک کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا چاہیے۔ یہ اسلام کے لئے خدا کے فضل کے ساتھ مستقبل

کی سرزمین بننے والا ہے۔ پھر فرمایا: مولویوں کی ایذا رسانی سے تکلیف تو ہے اور جماعت شدید بے چینی محسوس کرتی ہے اور ہر وقت یہ سوال اٹھتا رہتا ہے کہ کب آخر خدا ان کو بکڑے گا۔

کب ہمارے دل اس لحاظ سے ٹھنڈے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب دُنیا میں ناکام اور صواب کر کے دکھائے گا۔ تو میں اس پہلو سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو نیک اثرات ہیں دیکھ کر آیا ہوں ان پر

فرد نظر رکھیں۔ مولویوں کی کوششوں کے باعث برکونی بد اثرات ظاہر نہیں ہو رہے بلکہ اتنے زیادہ نیک اثرات ظاہر ہو رہے ہیں کہ اگر آپ تکلیف کے دونوں پہلوؤں میں ڈال کر دیکھیں اور دیکھیں

سے موازنہ کریں تو ان کی تکلیفوں کے مقابلہ میں انعامات کا پلڑا بھاری ہے اور مولویوں کی ہر کوشش ناکام اور نامراد ہوئی ہے۔ یہ جماعت کی ترقی کے نئے دروازے کھول کر آئے ہیں۔

کینیڈین مسلمانوں نے ان کو نہایت نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ یہ جماعت کے لئے شاندار کامیابی ہے۔

آخر میں فرمایا کہ کینیڈا میں کام کی بہت گنجائش ہے اس لئے کینیڈا کی سرزمین کو ہر پہلو سے دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سعادت کو بڑھائے اور جوینی انہوں نے جماعت سے کی ہے اس کی جزا دے۔

احباب جماعت کینیڈا حضور انور کی توقعات سے بڑھ کر چھکے فرانس کو ادارے

فرمایا: جہاں تک دورہ کینیڈا کا تعلق ہے یہ اپنی ذات میں نہایت ہی ضروری تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے نتیجے میں انشاء اللہ جماعت کی ترقی کے بہت سے سامان پیدا ہوں گے۔ یہ دورہ خدا کے فضل سے نہایت مصروف تھا اور اس خیال سے کہ بار بار موقع نہیں مل سکتا، جماعت نے حق المقدور میرے وقت کا بہترین استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اندرونی اور بیرونی رابطے کے لحاظ سے اس دورے کا بچہ بڑا اچھا اثر پڑا ہے۔ جماعتی طور پر بھی کہ جماعت کینیڈا نے گزشتہ چند سالوں میں ترقیاتی لحاظ سے غیر معمولی ترقی کی ہے اور اس ترقی کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرف طبیعت مائل ہوئی۔ مشرق سے مغرب تک اس ملک کے اندر جو سفر اختیار کیا اس تمام عرصے میں جماعت میں بیداری کی نمایاں روح دکھی ہے۔ فرمایا: پاکستان میں جو تکلیف دہ حالات گذر رہے ہیں بعض اُن کا پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں جو چل رہی ہیں ان کا تعلق ان تکلیفوں اور ان دعاؤں سے ہے جو ان تکلیفوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں اور ساری دُنیا میں خدا کی رحمت غیر معمولی طور پر ختم فرمایا لے کر آ رہی ہے اور اس کے چینیے مرہہ دلوں میں نئی تازگی اور نیا ولولہ عطا کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف کینیڈا میں ہی نہیں بلکہ ساری دُنیا میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسی ترقی کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو گا۔ پس جماعت احمدیہ کو اس پہلو سے خوشخبری ہو کہ جماعت ایک نئے ترقی کے دور میں داخل ہو چکی ہے اور اس نئے دور کے نتائج بہت دیر تک نکلتے رہیں گے اور اگر ان نتائج کو سنبھالیں تو آئندہ عظیم الشان اور عظیم تر نتائج کے لئے وہ بنیادیں مہیا کریں گے۔

پھر حضور نے جماعت احمدیہ کینیڈا کے بیرونی رابطے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بھی بیرونی دُنیا سے واضح اور مضبوط ہوا ہے اور اس کثرت کے ساتھ جماعت نے اپنے ماحول کو اپنے آپ پر واضح کیا ہے کہ جہاں جہاں بھی مجالس سوال و جواب ہوئی ہیں جماعت کے ابتدائی تعارف کی ضرورت نہیں پڑی۔

کنیڈا بیت

سیدنا حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ کے دست مبارک سے

اللہ کے پہلے گھر کے سنگ بنیاد کی تقریب سعید

اللہ تعالیٰ کا بے حد

فضل اور احسان ہے کہ مورخہ ۲۰ ستمبر ۱۹۸۶ء بروز ہفتہ کنیڈا میں حضور نے جماعت احمدیہ کے سب سے پہلے بیت اللہ کا سنگ بنیاد اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا۔ سنگ بنیاد رکھنے سے قبل حضور انور نے واشکاف الفاظ میں اعلان فرمایا کہ جماعت احمدیہ جہاں بھی عبادت گاہ بناٹے گی وہ قرآن کریم میں بیان فرمودہ مقاصد کے لئے بناٹے گی اور یہ مقاصد وہی ہیں جن مقاصد کے لئے دنیا میں سب سے پہلا اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا۔ جہاں تک ہم میں طاقت ہے ہم اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر انہی مقاصد کے لئے استھمال کیا جائے گا، انشاء اللہ۔

اس بابرکت تقریب کا آغاز صبح ساڑھے گیارہ بجے قرآن کریم کی تلاوت اور سیدنا حضرت اقدس بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے دعائیہ اور عارفانہ منظوم کلام سے ہوا۔ مکرم مولانا نسیم مہدی صاحب نے حاضرین کی خدمت میں سپاسنامہ پیش کیا۔ حضور کے خطاب سے قبل شہر س ساگا کی لیڈی میئر HERR WORSHIP، ٹاؤن شپ کے میئر اور محترمہ لائبل جوائز بیل وزیر شہریت و تمدن برائے صوبائی حکومت آف اریزارو کی نمائندگی کر رہی تھیں۔

ہر سہ معززین احباب نے موقع کی مناسبت سے اپنے اپنے ADDRESSES OF WELCOME حاضرین کی خدمت میں پیش کئے اور اللہ کے گھر کی تعمیر پر خوشی کا اظہار کیا اور اپنی عاجزانہ دعاؤں سے نوازا کہ یہ گھر نوع انسانی کی بہتری اور فلاح و بہبود کا باعث بنے۔ ان ہر سہ تقاریر کے بعد سیدنا حضرت امام جماعت احمدیہ نے حاضرین کو ایک جامع اور عارفانہ خطاب سے نوازا۔ حضور نے قرآن کریم کی آیت کریمہ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بَنَاكَ وَهَدَىٰ لِلْعَالَمِينَ

سے عبادت گاہ کے مقاصد اور اغراض کا استنباط فرمایا اور بتایا کہ سب سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کا مقصد کیا تھا۔ ساری نوع انسان کے لئے اور سب کے لئے ہدایت اور راہنمائی کا مرکز تھا اور اس ضمن میں بتایا کہ یہی مقاصد اس پہلے بیت اللہ احمدیہ کی تعمیر کے ہیں جس کی کنیڈا میں بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد حضور نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے اس بیت اللہ کے بنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا بیت اللہ احمدیہ کنیڈا کے بنانے کی خاص وجہ ہے اور

اس کی انفرادی و تاریخی اہمیت بھی ہے اور حاضرین کو جو اس بیت اللہ کی تعمیر کی غرض و غایت سے ناواقف ہیں کہ ہم کون ہیں اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور یہ بیت اللہ یہاں کیا تعمیر لائے گا کے بارے میں شکوک و شبہات کا ازالہ فرمایا اور بتایا کہ موجودہ زمانہ میں عبادت گاہیں سیاست کا اڈہ ہیں، تحریبی کارروائیوں کا مرکز ہیں، خون خرابہ، دہشت گردی پر اُکساتی ہیں، لیکن جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے اور جہاں بھی جماعت احمدیہ عبادت گاہ بنائے گی وہ قرآنی بیان فرمودہ مقاصد کے مطابق ہوگی، نفرت پھیلانے کے لئے نہیں، تشدد اور دہشت پیدا کرنے کے لئے نہیں۔ حضور نے فرمایا جماعت احمدیہ امن پسند جماعت ہے۔ ہمارے دل تکلیف اور دکھوں سے سجائے ہوئے ہیں، مصائب اور دکھ و حقیقت اپنی ذات میں دلوں کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ فرمایا آج کل پاکستان میں ہمیں نفرت کا مرکز بنایا گیا ہے حالانکہ اسلام قطعاً نفرت نہیں سکھاتا۔ پہلے نبی نوع انسان سے محبت اور پھر اللہ تعالیٰ سے محبت سکھاتا ہے۔ صد حقیقت ہے کہ ہر مذہب ظلم کا نشانہ بنا ہے۔ وہ ظلم پیدا کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا منشاء یہی ہے کہ اس کے ماننے والے نہ ماننے والوں کے غضب کا نشانہ بنیں اور ان کی تکالیف اور ان کی PURIFICATION کا ذریعہ بنیں۔ حضور نے فرمایا جو ایڈریس یہاں پڑھے گئے ہیں وہ رسماً نہیں تھے بلکہ معناً اپنے الفاظ کی گہرائیوں کو ادا کر رہے تھے پھر دو میٹر صاحبان کو حضور نے یقین دلایا کہ ہم ان کے خواہمورت شہر وں میں بھی خدا کے گھر بنائیں گے اور یہ تو صرف آغا نہ ہے آخر نہیں۔

صوبہ اوتارلو گو رنڈ کے وزیر موصوف کی نمائندگی کرتے ہوئے محترمہ لائٹا صاحبہ جو ایڈریس پڑھا حضور نے نمائندہ معزز خاتون سے کہا کہ ہمارے بھی محبت بھر سے جذبات ان تک پہنچا دیئے

جائیں۔ حضور نے بالآخر سب آنے والے احباب کا دوبارہ شکر یہ ادا کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے قریب کرے حضور کے خطاب کے بعد مکرم خلیفہ عبدالعزیز صاحب نائب امیر کینیڈا نے حاضرین کا خلوص دل سے شکر یہ ادا کیا اس کے بعد سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب شروع ہوئی حضور نے پہلی اینٹ نصب فرمائی جو قادیان کی بیت مبارک کی ایک اینٹ تھی جو اس موقع کے لئے قادیان سے منگوائی ہوئی تھی۔ حضور اور محترمہ بیگم صاحبہ کے علاوہ جماعت کے بعض دیگر زعماء کو بھی اینٹ رکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں :-

- ۸۔ محترم میاں عبدالرحیم احمد صاحب
- ۹۔ میر محمد احمد صاحب
- ۱۰۔ ماسٹر میاں محمد ابراہیم صاحب
- ۱۱۔ مولانا علی حمید صاحب ادیل (مری سسٹم)
- ۱۲۔ محمد سعید صاحب (سیکرٹری احمدیہ سن کینیڈا)
- ۱۳۔ ملک کلیم احمد صاحب (جنرل سیکرٹری سن کینیڈا)
- ۱۴۔ سمس احمدی صاحب (فنانس سیکرٹری سن کینیڈا)

- ۱۔ محترم مولانا نسیم مہدی صاحب امیر دستری انچارج کینیڈا
- ۲۔ شیخ مبارک احمد صاحب امیر دستری انچارج USA
- ۳۔ جناب مبارک احمد صاحب ساتی (وکیل البتیر لندن)
- ۴۔ ملک شیف الرحمن صاحب مفتی سسٹم عالیہ احمدیہ
- ۵۔ مولانا عطاء اللہ صاحب کلیم (سابق امیر دستری انچارج USA)
- ۶۔ صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب
- ۷۔ خلیفہ عبدالعزیز صاحب (نائب امیر کینیڈا)

- | | |
|--|--|
| ۲۶ - مکرم محمد شرف صاحب سیال (صدر جماعت اہریہ اوماہ) | ۱۵ - مکرم یوسف خان صاحب (سیکرٹری تبلیغ نیشنل) |
| ۲۷ - ڈاکٹر سجاد احمد صاحب (سبیری) | ۱۶ - ڈاکٹر سعید محمد یوسف صاحب (ڈائریکٹر) |
| ۲۸ - ڈاکٹر اعجاز قرم صاحب (ولنی ہیک) | ۱۷ - معین محمود صاحب جنجوعہ (ڈائریکٹر سیکرٹری اہریہ نیشنل) |
| ۲۹ - چوہدری عبدالمجید صاحب (لندن اونٹاریو) | ۱۸ - لفسر احمد خان صاحب (سیکرٹری مدد الہیہ عربی نیشنل) |
| ۳۰ - جمیل سعید صاحب (برمیلی) | ۱۹ - منور احمد صاحب (سیکرٹری تحریک جدید نیشنل) |
| ۳۱ - ڈاکٹر ساجد احمد صاحب (برائٹ فورڈ) | ۲۰ - محمد اللہ صاحب منڈوی (قائد عظام الاہریہ کینیڈا) |
| ۳۲ - عبد الرشید صاحب آزاد (ونڈلر) | ۲۱ - مظفر احمد صاحب لطف (نائب امیر USA) |
| ۳۳ - محترمہ نعیمہ مرزا صاحبہ (نمائندہ لجنہ امال اللہ کینیڈا) | ۲۲ - عبد الوحید خان صاحب (صدر جماعت اہریہ ٹورنٹو) |
| ۳۴ - مکرم عطا والا واحد صاحب (ریجنل قائد عظام الاہریہ) | ۲۳ - آفرشاد صاحب (سیکرٹری اساعت نیشنل) |
| ۳۵ - مکرم عبدالقادر صاحب (Architect) | ۲۴ - ڈاکٹر مرزا محی الدین صاحب (صدر جماعت اہریہ ایڈمانٹن) |
| ۳۶ - عزیزم عامر زبیری (نمائندہ اطفال) | ۲۵ - محمد برکات الہی صاحب جنجوعہ (صدر "نیشنل") |
- ۳۷ - عزیزہ سمانہ سعید (نمائندہ ناصرات)

اعتذار

ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ماہنامہ احمدیہ گزٹ اپ تک شائع نہیں ہو سکا اور ناگزیر مجبوریاں اس کام میں حائل رہیں۔ یہ شمارہ ماہ نومبر ۱۹۸۶ء حضور کی شریف آوری (کینیڈا) کے بارہ میں مجلہ تفصیلات پر شائع پیش خدمت ہے۔

احمدیہ گزٹ کے انتظام کو بہتر بنانے کیلئے آخری شمارہ میں ایک میننگ میں درج ذیل ایڈیٹوریل بورڈ اور انتظامیہ کمیٹی قریب دی گئی جو محترم امیر و مشنری انچارج کینیڈا کی زیر نگرانی کام کرے گی۔ یہیں امید ہے کہ ماہ جنوری ۱۹۸۷ء سے احمدیہ گزٹ "براہ باق عدلی سے الٹا شائع ہو سکے گا" ایڈیٹوریل بورڈ:- مکرم لفسر احمد صاحب - سیکرٹری اساعت نیشنل مکرم حسن محمد خان صاحب - ایڈیٹر احمدیہ گزٹ مکرم محمد سعید صاحب - مری سلسلہ انتظامیہ کمیٹی:- مکرم عبد الرشید صاحب - لطف - منیجر ٹورنٹو گزٹ مکرم حزقیل خان صاحب - انچارج کتاب و متفرقات (اطلاہ)

جو بندہ خدا پر توکل کرے
وہ محبوب اُس کا وہ اُس کا محبوب
کفیل آپ ہوتا ہے اس کا خدا
ویرزقہ من حیث لایحتسب

ولادت اور درخواست دعا

اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے خاکسار کو ۱۹۸۶ء کو بیبا عطا فرمایا ہے۔ نومولود مکرم ملک عصمت اللہ صاحب (برادر خورد محترم ملک صلاح الدین صاحب درویش ناظر اعلیٰ قادیان) کا پوتا اور محترم ملک نیاز محمد صاحب (محبابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام) کا بیٹا پوتا ہے۔ اور مکرم ملک حمید اللہ صاحب امیر جماعت سیالکوٹ کا نواسہ ہے۔ احباب جماعت سے دعاؤں کی مؤدبانہ درخواست ہے کہ نومولود نیک اور خادم دین بنے، عمر دراز اسے عطا ہو اور خاندان کے لئے قرۃ العین عزیز نومولود کا نام سعد عمر ملک تجویز کیا گیا ہے۔

خاکسار ملک مسعود احمد (120 CROSBY AVE RICHMOND HILL ONT.)

دعا نے مغفرت

خاکسار کی اہلیہ صبیحہ کی ممانی، اہلیہ ملک عبد المجید صاحب (مالک مسجد آئرن سٹور ریوہ) مؤرخہ ۱۹۸۶ء کو ریوہ میں وفات پا گئیں۔ انا لای وانا الیہ راجعون۔ احباب جماعت سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ مرحومہ کی مغفرت اور درجات کی تلبیہ کیلئے دعا کریں نیز ہم سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین محتاج عا ملک مسعود احمد - ریجنل (اونٹاریو)

غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے
اے مے فلسفیو! زور دے دیکھو تو
(حضرت مسیح موعود علیہ السلام)

سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ تعالیٰ کی زیر صدارت

خصوصی اجلاس شومیا منعقدہ ۲۰ ستمبر ۱۹۸۶ء
بمقام احمدی مشن ڈس بیت الاسلام

کینیڈا اور امریکہ میں تربیت اہل تبلیغ کی طرف خصوصی توجہ، جدوجہد اور تمام وسائل بروئے کار لانے کیلئے حضور انور نے ایک خصوصی شورائی کی صدارت فرمائی جس میں جماعتہائے امیرہ کینیڈا اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے علمہ نمائندگان نے شرکت کی۔ حضور انور نے علمہ نمائندگان سے جو خطاب فرمایا اس کا خلاصہ قارئین گزٹ کے استفادہ کیلئے پیش خدمت ہے۔ علمہ نمائندگان شورائی سے درخواست ہے کہ وہ ان گائیڈ لائنز کے مطابق اپنی مساعی کو تیز سے تیز کر دیں۔ اور احباب جماعت کو ان ذمہ داریوں کی طرف مسلسل توجہ دلاتے رہیں۔ خود عملی نمونہ پیش کریں اور احباب جماعت کو ساتھ لے کر چلیں۔

سے استنباط بھی کیا جائے۔

- ۴ - مومنین کا مصائب میں مبتلا ہونا، قرآن اور حدیث سے اخذ کیا جائے
- انبیاء کے بچپن کا زمانہ اور ان کے بچپن کا کردار
- اسکے بعد احمدیت سے تعارف، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت اور غرض، معجزات کی حقیقت اور دیگر فردی مسائل
- نظام جماعت کے بارہ میں نوجوان نسل کو بتایا جائے۔
- اللہ تعالیٰ کو بچے کیلئے Personalize کیا جائے
- والدین کو بتایا جائے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ بچوں کو کس طرح Handle کیا جائے۔ ان کو بتایا جائے کہ انبیاء نے بچوں کی تربیت کیسے کی؟
- والدین کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف firmly توجہ دلائی جائے
- والدین اپنے بچوں کو حدیث کی طرف توجہ دہی توجہ سے سمجھاتے ہیں۔
- لیکن دین کے بارہ میں نرم زبان استعمال کرتے ہیں۔
- والدین کا کردار اور طریق کار ان کی اولاد کے ساتھ، چھوٹا بولنا اور چھوٹے وعدہ کرنا جن سے بچوں کی تربیت بڑی طرح متاثر ہوتی ہے۔
- خواتین کیلئے بھی لٹریچر تیار کیا جائے اور مردوں کیلئے بھی
- ٹیلی ویژن کے سوسائٹی کیلئے بڑے اثرات حضور انور نے نہائے، TV اس زمانہ میں سب سے بڑی Evil ہے۔ بتایا جائے کہ ایسے بد اثرات سے بچنے کیلئے کیا طریق اختیار کئے جائیں۔
- بچوں کے ساتھ پروگرام دیکھنے، Shave کئے جائیں۔ حکما منہ نہ کیا جائے
- بلکہ اسکالڈ High value کا پروگرام فراموش کیا جائے۔
- اپنے بچپن کی تفریحات سے ان کو روشناس کرا لیں۔
- دعا پڑھو اور دعا کی اہمیت بتائیں کہ دعا سے مشکلات کس طرح دور ہوتی ہیں۔

حضور انور نے اس خصوصی شورائی بلانے کی غرض غایت بیان فرمائی۔

اول - نئی پود اور نئی نسل کو سمجھانے کی اشد ضرورت ہے یہ تربیت کا پہلو ہے۔

دوسرے - تبلیغ کی طرف بہت بہت توجہ کی ضرورت ہے حضور نے فرمایا۔

- نوجوان نسل کی تربیت کیلئے ضروری ہے کہ ان کو TASK دیا جائے کہ وہ اپنی نوجوان نسل کے تقاضوں کے مطابق لٹریچر تیار کریں اور شائع کریں۔ ان کو وہ مواد فراہم کیا جائے جو مواد اور لٹریچر ہم نے اپنی نوجوانی کی عمر میں پڑھا تھا۔ اور جس مفید لٹریچر سے ہماری تعمیر ہوئی ہے اس کی بنیاد پر ان کی تربیت کی جائے۔ جن بنیادوں پر ہماری نوجوانی کی عمر میں تربیت ہوئی تھی۔

- سٹوری بکس (Story Books) لکھی جائیں۔ ان کو یونیورسلائز کیا جائے۔ اور ان میں خاص پیغام ہو۔ Local پرائمر اور ورلڈ پرائمر کو ذہن میں ملحوظ رکھا جائے۔

- اللہ تعالیٰ کے Concept سے ابتداء کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ارشادات سے استفادہ کیا جائے، حدیثتہ الصالحین کتاب مکرم ملک سیف الرحمن صبح کی تیار کردہ ہے اس میں بہت مؤثر اور مفید احادیث ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات اور ہستی کے بارہ میں، اس لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر سکتا ہے۔ انبیاء کے بارہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ کہانیاں، Stories کی صورت میں اکٹھی کی جائیں۔

- اللہ تعالیٰ کی بے انتہا صفات اور اسکی قدوں کے بارہ میں احادیث صحیحہ کی جائیں۔ مثلاً جھستتا ہے یا وہ نہیں بھی جھستتا وغیرہ۔ قرآن کریم

تبلیغ

حضور انور نے تبلیغ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا:-

- مسلسل یاد دہانی کی ضرورت ہے۔

- تبلیغ کھینے جنون پیدا کریں۔

- بچوں کو بتائیں کہ سکول میں تبلیغ کیسے کرنی ہے۔

- امریکہ اور کینیڈا میں تبلیغ اور بھی ضروری ہے۔ امریکن

آبادی کو تبلیغ کے ذریعہ فتح (win) کریں۔ اگر امریکہ

کی 1/5 آبادی بھی مسلمان ہو جائے تو وہ امریکن پالیسی کو

dictate کر سکیں گے

- امریکہ میں اہمیت شروع شروع میں کامیاب ہوئی۔ امریکنوں کا مرکز

قادیان یا رومہ سے تعلق نہ تھا۔ اس لئے وہ اہمیت سے محروم ہو گئے

ان کے نزدیک مقامی تبلیغ ہی سب کچھ تھا۔ مقامی مبلغین نے انہیں

صحیح طور پر handle نہیں کیا۔ انہیں مرکز کے بارہ میں کچھ بھی

علم نہ تھا اور نہ ان کو مرکز سے وابستگی کی اہمیت بتائی گئی۔ خلیفہ

ایسے افراد مقامی تبلیغ کے ماتحت رہنے پر تیار نہ ہوئے اور الگ ہو گئے

- بلیک امریکن سوسائٹی کی طرف زیادہ توجہ کریں۔ ان کے آپ لیڈر

ہیں۔ ان کے مسائل کو آپ حل کریں۔ خواہ وہ احمدی نہ بھی ہوں

حضور انور کے خطاب کے بعد، حضور کے ارشاد پر ہر مہم مولانا نسیم مہدی

نے حضور کے ساتھ بیٹھ کر کاروائی میں حضور کی مدد کی۔

درج ذیل دوستوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔

نصیر احمد جوہری (کینیڈا)۔ بچوں کے لئے دینی کارسپانڈنس کو ریسر

شروع کئے جائیں۔

منظور احمد صاحب (USA)۔ ہم اپنے آپ کو آگے لائیں اور غنیمت پیش کریں

بستر احمد صاحب (USA)۔ جن کو ہم احمدی بتاتے ہیں ان کو فالو اپ

کریں تا وہ اہمیت پر قائم رہیں۔ پاکستانی احمدی اپنے

آپ کو Foreign نہ تسلیم کریں۔

جلال زرا اللہ (USA)۔ ہمیں صرف احمدی بچوں کھینے ہی نہیں بلکہ سب کے لئے

صافق صاحب (USA)۔ احمدی لڑکے مارشل آرٹس سیکھیں

ڈاکٹر مرزا محی الدین۔ قرآن کلاس مفید ثابت ہوئی ہے اور نئی

(کینیڈا) Activities میں حصہ لیا جائے، جب معلم افراد

سکولوں میں میگو دیں۔ اور سیمینار منعقد کئے جائیں

عبدالوہاب صاحب (Canada)۔ نا احمدی افراد کے ساتھ اپنی مجالس میں ہم انگریزی بولیں

حضور انور نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ہمیں اپنی زور

نصائح سے نوازا۔ ہمیں بیدار کیا۔ ہمیں جھنجھوڑا۔ ہمیں

صہاری ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی۔ اے فرزند ان احمدی

اپنے آقا کے ارشادات کو عز جان بناؤ۔ بنا عزم اور بنا اولہ

میدار کرو۔ آگے بڑھو اور کچھ کر کے دکھاؤ۔ وباللہ التوفیق

حسن محمد صاحب (Canada)۔ لائبریریاں قائم کی جائیں جس میں ہر قسم کی

کتابوں کا انٹرنیٹ پر (USA)۔ ڈاٹ کام لایبریریوں کی کتابوں کا انٹرنیٹ پر

شیراز احمد صاحب (USA)۔ ڈاٹ کام لایبریریوں کی کتابوں کا انٹرنیٹ پر

راشد صاحب (USA)۔ احمدی تنظیم کے ماتحت سکول کامیاب ہوئے ہیں، لہذا

بہتر سکولوں میں رکھے جائیں۔

محمد احمد صاحب (Canada)۔ مفت روزہ/بندرہ روزہ میگزین شائع کئے جائیں

سٹوری کے فیصلوں کو Implement کیا جا

در وزارت داخلہ۔ تبلیغی Tapes تیار کی جائیں۔

عیسیٰ جان صاحب۔ بچوں کے لئے وڈیوز مہیا کی جائیں۔

معین محمد صاحب (کینیڈا)۔ بچوں کو تقریر کرنے کی مستی کرائی جائے۔

Boon بچوں کو خود تنظیم بنا کر کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ بچوں

جرنلزم کی طرف بھیجا جائے تا Media اپنے ماتحت میں آجائے

ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب (کینیڈا)۔ TV پر پروگرام پیش کئے جائیں۔ سمپوزیم

کئے جائیں۔ Media سے مسلسل رابطہ رکھا جائے

مطالعہ الواحد صاحب (کینیڈا)۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے

اخبار میں جگہ خریدی جائے۔

صلاح الدین صاحب (USA)۔ دو گروہیں میں تبلیغ مفید لگے گی۔ بیچرزا

پروفیسرز، دوسرے مسلمانوں کو Prayer Book کی کتاب

کتابیں بھیجی جائیں۔

ڈاکٹر مقصد احمد صاحب (USA)۔ پاکستانی امریکن احمدی اردو سیکھیں۔

(ارشاد حضور)۔ والدین فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے بچے

اردو نہیں جانتے

سیخ مبارک احمد صاحب (USA)۔ امریکی گورنر نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام

کی کتب کا سیٹ ہونا چاہئے۔ سب ایسیائی احمدی گھروں میں

اردو بولیں۔ اور Summer School جاری کئے جائیں

یہ خصوصی ستوری شام 10 بجے شروع ہوئی۔ اور رات دس بجے

دعا کے بعد اختتام پذیر ہوئی۔

حضور انور نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ہمیں اپنی زور

نصائح سے نوازا۔ ہمیں بیدار کیا۔ ہمیں جھنجھوڑا۔ ہمیں

صہاری ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی۔ اے فرزند ان احمدی

اپنے آقا کے ارشادات کو عز جان بناؤ۔ بنا عزم اور بنا اولہ

میدار کرو۔ آگے بڑھو اور کچھ کر کے دکھاؤ۔ وباللہ التوفیق

نیا سال ۱۹۸۴ مبارک ہو۔ آئیں سال گزشتہ کا محاسبہ کریں

جہاں سال گزشتہ میں کمی رہ گئی ہے اس کمی کو اس نئے سال میں پورا کریں

صدر جماعت اہمہ کینیڈا کی خدمت میں ۱۰ جنوری ۱۹۸۴ء کو جو خط لکھا گیا۔ اجاب جماعت کی خصوصی توجہ کیلئے پریہ تاریخ میں ہے

۱۰ جنوری ۱۹۸۴ء
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آج سبکو نیا سال ۱۹۸۴ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سال ہمارے لئے خیر و برکتوں کا سال ہو اور ہم محض اس کے فضل و کرم سے ہی اپنی کوتاہیوں اور خامیوں کے باوجود اس کے انعام و اکرام کے مورد بن سکیں۔

نیا سال شروع کرنے سے پہلے فروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم گزرے ہوئے سال کا جائزہ لیں اور نیا محاسبہ کریں کہ ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئیں۔ کہاں کمی رہ گئی۔ اور کہاں ہماری خامی و قیوم پذیر ہوئی تا اس کمی کو آئندہ سال یعنی اس نئے سال میں نئے عزم۔ دلولہ اور جوش سے پورا کر سکیں۔ وباللہ التوفیق (اختصار سے صرف Salient features ہی اس خط میں شامل کئے گئے ہیں)

(۱) سال نو ۱۹۸۶ء اور وقف جدید

ہمارے پیارے اور اللہ العزیز امام ایدہ اللہ تعالیٰ نے وقف جدید کو مضبوط کرنے کیلئے اہل پاکستان میں پھیلنے والے کام کو تقویت دینے کی غرض سے وقف جدید کی مالی تحریک کو پاکستان اور ہندوستان میں محدود رکھنے کی بجائے ساری دنیا میں وسیع کرنے کا اعلان فرمایا۔ اور فرمایا اگر ایک اہل کینیڈا کی معیشت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کس بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ حضور نے فرمایا کرتے کے ساتھ اچھی۔ بچے اور بچوں اور بوڑھے اس میں شامل ہوں کیا ہم نے من حیث الجماعت حضور انور کی اس تحریک پر کما حقہ لبیک کہا؟ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اسے اس سال ۱۹۸۴ء میں پورا کریں۔ وقف جدید کا نیا سال یکم جنوری سے ہر سال شروع ہونا ہے۔

(۲) سینیڈا بلال خٹہ

خلیفہ جمعہ فرمودہ ۲۴ اراچ ۸۶ء میں حضور انور نے اعلان فرمایا :
آج میں اس تحریک کا اعلان کرتا ہوں۔ ہدی طرح شرح صدر اور نصیحت کے جذبہ سے جو دنیا چاہتا ہے وہ ہے۔ اور اسی سبھی تردد یا بوجھ ہو تو وہ ہرگز نہ ہے، اسپر لازم ہے کہ نہ ہے، دل سے بے قرار تمنا اٹھ رہی ہے یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں آپس میں مل جاؤں آج ایک آنے بھی جبکو توفیق ہو وہ بھی غلیظ دولت ہے، وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی سعادت ہوگی
کیا ہم نے حضور انور کی اس تحریک میں جتنا کہ اس کا حق ہے جمع کیا؟ اسیراں راہ مولیٰ اور سہیدان راہ مولیٰ آپ کی توجہ کے مستحق ہیں۔

(۳) ۲۱ مارچ ۱۹۸۴ء کارگزاری کی رپورٹ

۲۱ مارچ ۱۹۸۴ء کو ڈیڑھ گھنٹہ کے لئے کارگزاری کی رپورٹ کا تین صفحاتی "formal" تمام جماعتوں کو بھجوا دیا۔ ہمارا مقصد یہ تھا :-
(۱) ساری جماعت سو فیصد داعی الی العدم بن جائے۔ ہمارے ہر ماہ امداد و شمار کے ذریعہ ترقی کی طرف قدم اٹھنے
(۲) ساری جماعت سو فیصد حضور انور کے خطبات جمعہ کی Cassettes سن لے۔
(۳) ساری جماعت سو فیصد بالشرح حینہ دہند بن جائے۔ اور ان میں ہر ماہ کو سنس جاری رہے۔

(اگلے صفحہ پر جاری)

ان ائمہ کے علاوہ دیگر امور کے بارہ میں بھی رپورٹ مطلوب تھی: بچوں کی تعلیم، اللہ ان نکالیں، حلقہ وار مہلتوں میں ایک خطہ باجماعت کا انتظام اور درس و تدریس۔ ماہانہ شیٹنگ اور جماعت کو کن امر کی طرف توجہ دلائی گئی۔ مجلس عاملہ کی ماہانہ شیٹنگ اور آپ کی کارگزاری کا جائزہ وغیرہ وغیرہ

کیا آپ نے باقاعدگی سے ہر ماہ اپنی رپورٹ بھجوائی؟ تا کر زور ڈالو آپ کی مہتر کارگردگی کے لئے راہنمائی کر سکتے اگر نہیں تو اس سال باقاعدگی سے ہر ماہ رپورٹ بھجوائیں۔ یہ اعداد و شمار آپ کو ہر ماہ بیدار رکھیں گے اور گزشتہ ماہ کے اعداد و شمار بھی آپ کو آئندہ ماہ سست نہیں ہونے دیں گے۔

(۵) نظام وصیت کے تعلق حنفوی خطبہ

۲۸ مارچ ۱۹۷۸ء کے خطبہ جمعہ میں حضور انور نے ارشاد فرمایا:-

میں موصیان کو نفی کرتا ہوں کہ ابھی وقت ہے زندگی میں خدا تعالیٰ سے معاملات کو درست کر لینے کا۔ اگر اس دور میں آپ نے اپنے معاملات یا بعض باتیں مخفی رکھیں یا کسی لہلو سے آپ تقویٰ کے حصار پر ٹوڑنا آترے تو یاد رکھیں کہ یہاں کھاتے میں جو کچھ چھپی لکھا ہوا ہے یہ دفتر ویدوں سے مستقل نہیں ہوگا۔ وہاں تو کرنا کامین کے کھاتے اور ہیں..... اگر یہ بات ہو جائے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں مالی معاملات میں خدا پر دیا تھی کر رہا تھا۔ یہ عیبارہ تھا جو خدا نے اسے دیا تھا اس سے کم ظاہر کرتا تھا تو پھر یہ محبت ہی نہیں ہے کہ اس نے روپیہ دیا یا اپنے جسم کی وصیت منسوخ ہونی چاہئے۔ جیسا ایسے لوگوں کی وصیت منسوخ کی جاتی ہے تو پھر سزا اٹھتا ہے کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے جماعت میں۔ اس نے آسانیا اب فلاں اسکی ریکارڈ کیا ہے۔ اسکی وجہ سے آسانیا کھڑا کھڑا کر دیا.....

کیا ہم نے ہر موصی یا موصیہ تک حضور کا یہ خطبہ سنیجا دیا ہے؟ اور اسکے مطابق ہر موصی نے اپنے معاملات کو درست کر لئے ہیں

(۵) توسیع مکان بھارت خدمت

اسکی خطبہ جمعہ فرمودہ ۲۸ مارچ ۱۹۷۸ء میں حضور انور نے فرمایا: ہندوستان کی جماعتی ضروریات تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ خدمات مقدہ کی ضروری رتھیں ہیں۔ دہلی میں جماعت کا شاندار مرکز بننے والا ہے۔ کانپور میں جماعت کو مرکز کی ضرورت ہے۔ اور بھی بہت سی ضرورتیں ہیں اس تحریک میں ہندوستان کی جماعتیں حصہ لیں، دوسرا درجہ ہے وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں مگر ہر ماہ یورپ یا کینیڈا میں ایسے لوگ حصہ لیں، تیسرا درجہ ہے میں یہ معلوم کرتا ہوں کہ انفرادی طور پر کوئی یہ حق سمجھتا ہے کہ قادیان کا تعلق ہے دنیا کی جماعتوں سے تعلق ہے، وہ بھی اکیس حصہ لے سکتا ہے۔

کیا ہم نے حضور انور کی اس تحریک پر عملاً لبیک کہا؟ آپ سیکے جواب کا انتظار ہے۔

(۶) مالی قربانیوں میں تقویٰ کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہئے

خطبہ جمعہ فرمودہ ۲۸ مارچ ۱۹۷۸ء میں حضور انور نے فرمایا:-

امیر اپنی غیر معمولی توفیق کے باوجود شرح کے مطابق حینہ دینے سے بچ گیا ہے۔ ... اراء کو مخاطب فرمایا کہ ان کو اپنے تقویٰ کی قربانی کرنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال جب خدا کو واپس کیا جاتا ہے تو کم نہیں ہوتا۔ غریب آدمی جب بوری کے پیش نظر جبراً سے کئی کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ بے دھرمک معافی کے لئے خط لکھتا ہے لیکن امیروں کی ایسا کبھی کوئی خط نہیں آیا۔ کیونکہ اگر وہ لکھیں گے تو ان کو سزا زندگی ہوگی اس لئے وہ نظام جماعت کو توڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک سزا فرم کر رہے ہوتے ہیں۔

کیا آپ نے جماعت کے ہر فرد کو جو شرح سے کم حینہ دیا ہے یا وہ نادمند ہے اس سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ جتنا بھی ہے اسکی حضور انور سے اجازت مانگ کر کے حینہ دہندگان بے شرح باجارت میں جانے۔ اور بے اجازت بے شرح نہ رہے؟

(۷) نئے مالی سال (۱۹۸۶-۸۷) کا پہلا خطبہ

۴ جولائی ۱۹۸۶ء کے خطبہ جمعہ میں حضور انور نے ارشاد فرمایا :-

جنبہ دہندگان ابھی تک صحیح معیار پر قائم نہیں

- (۱) بعض یہاں نے ننگ کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ (۲) بعض کے دل تگم ہوتے ہیں۔ بہت تماشے منظور آدیتے ہیں
(۳) ایک معقول تعداد جنبہ بالکل نہیں دے رہی۔ (۴) کئی ایسے بھی ہیں جو ابھی تک جیسے ہوئے ہیں۔ اور تعداد میں بھی شامل نہیں
(۵) باہر کی جماعتوں کا بہت بڑا حصہ مالی قربانی میں اہمیت مل نہیں۔
(۶) نادہندگان کو مالی قربانی میں ضرور شامل کریں۔

ان تمام امور کا سونپیدہ محاسبہ کیا ہم نے کر لیا ہے ؟

(۸) حضور انور کی کینڈا میں تشریف آوری (۱۸ ستمبر ۸۶ء تا ۸ اکتوبر ۱۹۸۶ء)

حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کفر مٹائی فرمائی۔ اور اپنی بے پناہ مصروفیتوں کے باوجود ۲۵ دن کا طویل عرصہ ازراہ شفقت ہم میں گزارا
حضور انور نے اپنے کینڈا میں تیام کے دوران میں امور کی طرف توجہ دلائی، خطبات جمعہ میں، مجالس عریان یعنی سوال و جواب کی مجالس میں
یا خصوصی شوری میں جو ۲۰ ستمبر کو ٹورنٹو میں حضور انور کی زیر صدارت منعقد ہوئی ان کا خلاصہ یہ ہے :-

(۱) جماعت اپنی اور اپنی اولادوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دے۔ تجھے آپ کی اولادیں اہمیت سے غور ہوتی نظر آ رہی
ہیں۔ آپ کی اولادیں بھی نہیں بلکہ آپ میں بھی خدمت دین کا وہ احساس نہیں جو ہر ما چاہئے۔ بہت نڈکی بات ہے۔

(۲) تبلیغ کی طرف پوری پوری توجہ دی جائے۔ لیکن طریق بیعیام حق پہنچانے کیلئے اختیار کیا جانے۔

(۳) نماز جماعت کی میں نے یقین کی تھی۔ کچھ عرصہ اسپر عمل ہوا پھر سستی نظر آنے لگی۔ عبادت ہماری زندگی میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے

(۴) پردہ کے بارہ میں خاص خطبہ مانٹر ٹال میں ارشاد فرمایا۔ کہ آنحضرت معلّم و خاتم الانبیاء ہیں کہ ان کا اثر ہر گروہ اور قوم پر
پڑنے والا ہے۔ نہ کہ ان کی قوم اور امت پر دوسروں کا اثر پڑے۔ تم غیروں سے اثر قبول کرنے والے نہ بنو۔

خصوصی شوری کے بعد اس میں حضرت اقدس نے پون گھنٹہ سے زائد تربیت اور تبلیغ کے بارہ میں اپنی فصاحت سے ہماری راہنمائی فرمائی۔
۲۰ ستمبر ۸۶ء کو کینڈا میں پہلی مسجد احمدیہ کا سنگ بنیاد بے غیب زماکر ہم پر عظیم ذمہ داری ڈالی۔ کیا ہم نے اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے
کا عزم کر لیا ہے ؟ کیا ہم نے حضور کی بیان فرمودہ بیانیہ پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے ؟ آپ جائزہ لیں اور اپنا اپنا محاسبہ کریں۔

(۹) جلسہ منہ کینڈا (۱۱ اکتوبر) کے بعد کی شوری کے فیصلہ کا

۱۳ اکتوبر ۸۶ء ٹورنٹو کنٹر میں سالانہ شوری منعقد ہوئی۔ آپ کی جماعتوں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ تربیتی کمیٹی۔

تبلیغی کمیٹی اور مالی کمیٹی نے غور و خوض کے بعد اپنی اپنی رپورٹیں شوری میں پیش کیں۔ آپ کے نمائندگان نے ان رپورٹوں پر
تعمیر کیا۔

کیا آپ کے نمائندگان نے جماعتوں میں درس جاکر شوری میں پائس ہونے والی تربیتی تجاویز، تبلیغی تجاویز اور مالی قربانی
کی تجاویز کے بارہ میں جماعت کو آگاہ کیا؟ کیا جماعتوں نے صدق دل سے ان تجاویز پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے ؟ آخر شوری
کے انعقاد کا مقصد کیا ہے، کیا اس مقصد کو ہم پورا کر رہے ہیں ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین۔

(۱۰) آخری بات، تحریک جدید کے نئے سال کا اعلان سال ۸۶-۸۷ء (تا ۲۱ اکتوبر ۸۶ء)

حضور انور نے خطبہ جمعہ ۲۱ اکتوبر ۸۶ء میں نئے سال کا اعلان فرمایا۔ کہ وعدہ جات میں بھی اضافہ ہو۔ اور وعدہ کنندگان

کی تعداد میں بھی اضافہ ہو۔ بعض جماعتوں کی طرف سے ابھی تک وعدہ جات نہیں ملے۔ فوری توجہ فرمادیں

والسلام

حاکم